

سيرة المنتهى

سيرة المنتهى

مكيال ناول



WWW.PAKSOCIETY.COM



سردۃ المنتہی

سید و راز

مکمل ناول

والے کو نیچے اور نیچے والے کو اوپر تک جانے میں مدد دیتی تھی۔ اس سیڑھی کے اطراف میں بہت سے چھوٹے پتھر، کنکریاں چھپی ہوئی تھیں، سیڑھی کے نیچے زمین کچھ ہموار تھی۔

جہاں سے راہ گیر لڑکھڑاتے ہوئے پتھروں کو پھلانگ کر پکی سڑک تک جاتا تھا۔ اور پکی سڑک پر جب چھوٹی سی چپ گزرتی تھی تو ابو ذر کھڑکی سے سر نکال کر اس چھوٹی سی چوٹی پر بنائی گئی اپنی جنت کو دیکھتا تھا، جہاں ہر اک کم عمر، خوب صورت خوراس کا

کسی مضافاتی علاقے میں نہر کے قریب کسی بستی سے دور وہ لکڑی کی چھت والا ایک اکیلا گھر تھا اور خاصی اوپری سطح پر تھا کہ پکی سڑک پر سے گزرنے والے کی نگاہ سیدھی اس پہاڑ کی چھوٹی سی چوٹی پر پڑتی تھی۔ جب بھی سیلاب آتا اس گھر کی بنیادوں کو چھو کر بھی نہیں گزرتا تھا۔ نہر میں ارتعاش ضرور آتا اور پانی چوٹی سے ٹکراتا بھی تھا مگر ٹک نہ پاتا۔

بے ترتیب پتھروں کے درمیان پچھلی طرف کے بڑے سے پتھر کو کاٹ کر سیڑھی بنائی گئی تھی جو اوپر

ریٹنگ پر جھک کر انتظار کرتی تھی یا بے قراری سے شہلتی تھی۔

اس نے اب بھی ایسا ہی کیا تھا۔ مگر حسرت کی حور اپنی مخصوص جگہ پر نہیں تھی۔ گاڑی پکی سڑک سے پیچھے اترنے کو تیار نہ تھی۔ ڈرائیور نے ابوذر کو ہمیں اتر جانے کا کہہ دیا۔ یہ جیب اس کے ساتھ دوست کی تھی۔ وہ جب بھی گھر آتا، اس کی گاڑی لے آتا تھا۔ کبھی کبھار تو گاڑی کچھ دنوں کے لیے رکھ لیتا اور تب اس کی رانی اسے طعنہ دیتی ”ابوذر ایک چھوٹی سی جیب بھی نہیں لے سکتے تم“

چونکہ پتھر لیلے اور ریتلے راستوں کے لیے جیب کی سواری ہی بہترین تھی۔ علاوہ ازیں سواریاں زیادہ آگے جانے پر بری طرح متاثر ہو جاتی تھیں۔

وہ اپنی رانی کی بات بے تاثر چہرے سے سنتا یا پھر ایک تہقیر لگاتا۔ وہ اسے گھورتی یا پھر مسکراہٹ دبا کر اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔ وہ اس کے تصور میں جیب سے

اترا۔ تھیلہ کندھے پر لٹکایا اور پکی سڑک سے پتھر لیلی سڑک پر آگیا۔ جہاں سے پتھروں سے بچ کر نکلتا دشوار تھا۔

اس کی مضبوط لیدر کی چپلوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہمیشہ کی طرح چبھ گئیں۔ جن کی جھین پاؤں تک محسوس ہو رہی تھی۔

وہ بڑے پتھروں سے بچتا بچتا میٹر میٹر چڑھتے اوپر آیا جہاں چھوٹے سے مکان کے اوپر رکھی لکڑی کی چھت کچھ آگے تک نکلی ہوئی دھوپ سے بچا رہی تھی اور اسی کے نیچے مٹی کے گیلے سجے ہوئے تھے جن میں سارے پھول ابوذر کی پسند کے لگائے ہوئے تھے۔

بعض اوقات عائشہ اس کی رانی ان پھولوں کا گلہ ستہ بنا کر اسے پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہتی، ابھی اسے سامنے نہ پا کر وہ جھک کر سارے گلوں سے پھول توڑنے لگا اور پورا گلہ ستہ بنایا اور ہاتھ میں لیے ان کی خوشبو دل میں اتارتا آگے بڑھا۔ وہ ریٹنگ کے سہارے چل کر لاؤنج میں آیا وہ خالی تھا۔

آگے دو کمرے تھے اور کونے پر ایک جگہ میز رکھ کر دو کینٹھ بنا کر کچن کا نام دیا گیا تھا۔

ابوذر نے اسے لکڑی کا ایک اسٹینڈ بھی بنا دیا تھا۔ جس پر گنتی کے چار چھ برتن رکھے ہوئے تھے۔ چولہے پر ہنڈیا چڑھی تھی۔ تازہ سالن اتارا گیا تھا۔

اس کی پسند کا ساگ اور مچھلی کی خوشبو سارے میں پھیل رہی تھی۔ رات ہٹا کر دیکھا تو چاول کے آنے کے بیڑے بنائے گئے تھے۔ تازہ روٹی ڈالنے کے لیے وہ اس کی آمد سے لائق نہ تھی۔ ابوذر نے جو ایک ہفتہ پہلے اسے فون پر کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے آئے گا۔ اتوار یا پیر کو اور آج منگل تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اتوار سے یہ اہتمام کرتی آئی ہوگی۔

اور شاید یہ دیر سے آنے پر ناراضی کا اظہار ہے کہ آج نہ وہ ریٹنگ پر جھکی ہاتھ ہلاتی ہوئی نظر آئی نہ پھولوں کے گیلے گے پاس نہ ہی لاؤنج میں کچن میں سالن بھونتی ہوئی ملی وہ کمرے میں ہی تھی۔

ابوذر بغیر اسے آواز دیے — آہستگی سے قدم اٹھانا اندر آیا جس طرف عائشہ کی پشت تھی۔ اس نے بیگ اتار کر رکھا اور ہلکے سے عائشہ کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔

”بتاؤ تو کون آیا ہے۔“ یہ شرارتی انداز عموماً عائشہ کا ہوتا تھا اور وہ اسے منانے کے لیے اسی کے حربے استعمال کر رہا تھا۔

عائشہ نے بے دردی سے ہاتھ ہٹائے اور اس نے پھولوں کا گلہ ستہ آگے کر دیا اس کے چولہے کر اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔

”یہ ناراضی کا اظہار ہے۔“ وہ اس کے آگے آکھڑا ہوا۔

”آج کون سا دن ہے۔“ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔

”میں تاریخ نہیں دیکھتا۔ میرے کیمپ میں کیلنڈر ہی نہیں ہوتا۔“ اس نے کندھے اچکائے بڑے مزے

گزارا کر رہا تھا۔ پہلے پانی پی لینا پھر آدھی روٹی کھا کر
آدھی بجاکر ضلع کرتا۔ اسے ابو ذر کی یہ علوت سخت
ناپسند تھی کہ وہ کھانے سے پہلے پانی بہت پیتا تھا۔
اس نے بغیر کچھ کئے کھانے کی ٹرے قریب کی اور
نوالہ لیتے ہوئے اسے خیال آیا۔

”وہ کہاں ہے؟“ اس کا اشارہ بچی کی طرف تھا۔
”اس نے کھانا کھلایا۔“ یہ دو سر اسوال تھا جس پر عائشہ کا
موڈ مزید خراب ہوا تھا۔
”یہ پوچھا کہ میں نے کھانا کھلایا یا نہیں تم پہلے اس
کا پوچھ رہے ہو۔“ ناراضی بجا تھی۔
”اس لیے کہ وہ چھوٹی سی بچی ہے۔“ نوالہ ابھی
ہاتھ میں ہی تھا۔

”دے دوں گی اسے تم کھاؤ پہلے۔“ بلجہ رو کھاسا تھا۔
”پہلے اسے دے دو۔ میں بعد میں کھاؤں گا۔“
نوالہ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔
”نہیں کھاتی تمہاری لاڈلی یہ مچھلی اور ساگ۔ کہتی
ہے بو آتی ہے۔ سخت ناپسند ہے۔ اب میں کہاں سے
لاؤں اس کے لیے الگ سے کھانا۔“
”وہ بچی ہے اس کے لیے کچھ بنا دیا کرو عاشری!“

سے یہ توجیح تھا کہ کیمپ میں کیلنڈر نہیں لگایا گیا تھا۔ وہ
پرائیویٹ کیس کیمپنی میں کالم کرتا تھا۔ جہاں اسے
پہاڑی علاقے میں یا پھر کئی جگہوں پر عارضی کیمپ میں
رہنا پڑتا تھا۔ کیمپ کے اندر ہر سہولت تھی۔ یہاں
تک کہ ٹی وی بھی رکھا گیا تھا۔ جو صرف اینٹینا کے
ذریعے سرکاری چینل ہی دکھاتا تھا۔

اتنی سہولیات کے باوجود کیلنڈر لگانے کی ضرورت
اس لیے نہیں تھی کہ ٹی وی چینلز، موبائل فون۔
ہر جگہ کیلنڈر کا اندراج نصب تھا اور وقت کے ساتھ
ساتھ تاریخ بھی بتا دیتا تھا۔

عائشہ کے ذہن میں نہ آیا کہ جیب میں پرائیویٹ فون
اٹھا کر اسے تاریخ دکھا دے۔ وہ صرف اسے خطگی سے
گھورتی رہی۔

”میرا کیا قصور ہے کہ پچھلے تین دن سے میں مچھلی
اور ساگ پر گزارا کر رہی ہوں۔“ اس کی شکایت بجا
تھی۔

”تم اپنے لیے کچھ اور بنالیا کرو۔“ وہ بیڈ کے
کنارے پر بیٹھ گیا۔ حالانکہ اسے اچھی طرح پتا تھا وہ
ایک وقت میں کئی چیزیں نہیں بنائے گی۔ اسے یہ سب
وقت پیسے اور چیز کا ضیاع لگتا ہے۔

وقت تو ہاتھ سے کھسک جاتا ہے، مگر وہ چیزوں کو اور
پیسے کو بچا کر رکھتی تھی۔ اس کی یہ علوت بہت اچھی
تھی۔ جس نے ابو ذر کو فائدے میں ڈالا ہوا تھا۔

”اچھا کھانا لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔“ وہ ہاتھ
دھونے کے لیے اٹھا اور کمرے سے ملحق باتھ روم کا
درج کیا۔

وہ کھانا لینے کچن میں پہنچی اور گرم گرم روٹی ڈالنے
لگی۔ ابو ذر کو تازہ روٹی پسند تھی۔ ساتھ ہی اسے اس
بچی کا خیال آیا جو پچھلے کئی دنوں سے بخار میں تپ رہی
تھی اور کھانے کے نام پر اب تک صرف چند نوالے
لیے تھے۔

وہ کھانے کی ٹرے لیے اپنے کمرے میں آئی جہاں
اب ذر فریش ہو کر بیٹھا تھا۔ کھانے کے انتظار میں پانی پر

میرزا عبداللہ

حکایت عبداللہ



قیمت - 400 روپے

مکتبہ عمران ڈائجسٹ
37، اردو بازار، کراچی

فون نمبر: 32735021

”تو پھر بسکٹ کھا لویا چاکلیٹ۔ دیکھو اس میں کتنی چیزیں ہیں۔“

بیسکٹ کھول کر دکھایا، رنگ برنگے ریپرز میں چھپی جیسی، چاکلیٹ، ٹافیاں، بسکٹ اس کے سامنے تھے۔ عائشہ خاموش تماشائی سی کھڑی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لایا کرتا تھا۔ اس بار بھول گیا یا ضروری نہ سمجھا۔ ”نہیں، مجھے گھر جانا ہے۔“ چہرہ اتر اہوا افسردہ سا تھا۔

”چلو، ہم پہلے ڈاکٹر کے پاس چلیں پھر گھر جائیں گے۔“ اس کی شکل روٹی سی بن گئی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ملایا۔

”ہاں باختر کہاں ہو۔ ابھی اسی ایریا میں ہونا۔ یار! یہیں رکنا، بلکہ کچھ آگے تک آؤ، بہت ضروری کالم ہے۔ بچی بہت بیمار ہے۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ ہاں میری بچی۔“ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔

ابو ذر نے چیزیں سمیٹ کر کچھ اپنی جیبوں میں بھری اور اسے اٹھالیا۔

”میں خود چل سکتی ہوں۔“ اس نے اعتراض کیا۔ ”نیچے جا کر اتر جانا۔ یہاں سے رستہ مشکل ہے۔“ وہ فون جیب میں ڈالے اسے کندھے پر اٹھائے تیزی سے باہر آیا۔

”مجھے واپسی میں دیر ہو سکتی ہے، کھانا کھا لینا۔ دیر ہو جائے تو سو جانا، میں آجاؤں گا۔“ وہ عائشہ سے کہتے ہوئے نیچے کی طرف آیا۔ پاؤں سیڑھی پر رکھ دیے۔

”مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ مجھے گراویں گے۔“ وہ چیخی۔

”نہیں گروگی۔ چپ رہو۔“ اس نے تیزی سے اترتے ہوئے ڈانٹا۔ اس نے اپنی چیخ دباتے ہوئے نور سے آنکھیں بند کر لیں۔

وہ نیچے اتر کر پکی سڑک کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے دور سے آتی ہوئی جیب دکھائی دے رہی تھی۔ عائشہ ریٹنگ کے پاس کھڑی عجیب سے انداز میں ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ کھانا دیر تک ایسے ہی پڑا رہا اور وہ نوالہ

نوالہ حلق میں اترنے کے لیے ترس رہا تھا اور وہ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔

”جب میں اپنے لیے نہیں بناتی تو اس کے لیے کیوں بناؤں۔“

”بہت بری بات ہے عاشری! کہاں ہے وہ ابھی۔“ وہ اٹھا اور بیگ میں سے ایک ڈبا نکالا۔ جس میں چاکلیٹ اور بسکٹ کے ساتھ کچھ اور چیزیں تھیں۔ ڈبا لیے ساتھ والے چھوٹے سے کمرے کی طرف آیا جہاں پر غیر ضروری اور ضروری سامان بھرا تھا۔ کونے میں ایک بستر بچھا تھا جس پر وہ سر نیہواڑے بیٹھی تھی۔

”کہاں رکھا ہوا ہے تم نے اسے۔ اپنے ساتھ سلانے میں کیا حرج تھا۔“ پیچھے سے آتی عائشہ کو اس نے خفگی سے کہا تھا۔

”بیٹا! کیا حال ہے۔“ وہ گھٹنے نکا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سر اٹھایا تو رنگت سرخ تھی اور آنکھیں جیسے دکھتا ہوا انکارہ۔ ابو ذر نے ہاتھ بڑھا کر پیشانی چھوئی تو چیخ اٹھا۔

”انتا تیز بخار۔ بتایا بھی نہیں تم نے مجھے۔“ اس کا غصہ عائشہ پر تھا جو ابھی تک غصہ دبا رہی تھی اپنا۔ ”اٹھو بیٹا۔ جلدی اٹھو۔“ اس نے بچی کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ جو فوراً ”دک کر پیچھے ہوئی، کرنٹ کھا کر۔“ مجھے نہیں جانا نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔“

”میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اگر تم میری بات مانوگی۔“

”میں مانوں گی۔“ سہمے ہوئے لہجے میں کیا نہیں تھا۔ ابو ذر کو ٹوٹ کر پیار آ گیا۔ اس نے بچی کا سر جو م لیا۔

”پہلے ہم کھانا کھائیں گے، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر میں نہیں گھر چھوڑ دوں گا۔“ ”پہلے مجھے گھر چھوڑ دوں۔“ بچی انداز معصوم چہرہ وہ مسکرایا۔

”پہلے کھانا۔“ ”کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔“ برا سامنہ بنایا۔

خود بخود کھل جاتا تھا۔ ایک دھکے سے ہی۔ اسے صحن میں دیکھ کر شانی دروازے سے باہر نکلا، پوچھے فاطمہ بھی تھی۔

”کہاں تھیں آپ؟ اتنی دیر ہو گئی۔ کیوں ہمیں چھوڑ جاتی ہیں۔“ فاطمہ لیٹ کر رونے لگی اور شانی کے چہرے پر شکایت لکھی تھی۔

”اندر چلو۔“ وہ آنسو پتی ان کو ساتھ لپٹائے اندر آئی۔

”میرے بچے تو بہت بہادر ہیں نا۔“ اس نے شانی کی پشت چھلی، کھل پر پیار کیا۔ فاطمہ تو اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اندر آکر اس نے بچوں کو الگ کیا۔ تھیلا کھولا، راشن بکھر گیا۔

چھوٹے چھوٹے ساٹھے، پیکٹ، صابن، شیمپو، تھی، چینی، آٹا، چاول وغیرہ زینی کو میکرونی اچھے لگتے تھے۔ فاطمہ ہاتھ میں پیکٹ لے کر بیٹھ گئی۔

”اب کیوں لاتی ہیں امی! جب زینی نے ضد کی تھی، تب تو نہیں لاتی تھیں۔“ فاطمہ کا موڈ بہت خراب تھا۔

”زینی جب آئے گی، تب ہم یہ بتائیں گے یہ رکھ لو فاطمہ۔“ شانی نے پیکٹ لے لیا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا وہ بھرا۔ یقین اور بے یقینی کے درمیان ٹھہرا۔

”تم یہ کھاؤ۔ زینی آئے گی تو ہم بہت سارے میکرونی لائیں گے۔ ہم آئس کریم بھی روز کھلایا کریں گے۔ ہم روز آؤٹنگ کے لیے جائیں گے۔ میں بالکل بچت نہیں کروں گی۔ (بچت بہہ جاتی ہے)“ اس کی مسکراہٹ جھوٹی تھی، مصنوعی تھی، مگر لہجے میں امید تھی۔

”چاہے جتنی سردیاں ہوں۔ ہم آئس کریم کھائیں گے؟“ فاطمہ بھی دل کو بہلانے کا کام کرتی تھی۔

”چاہے سردی ہو۔“ وہ مسکرائی، پھر وہی مسکراہٹ۔

”زینی مل جائے گی نا امی، شانی بھی جب سوچ سوچ

بھی۔



شام پھیل رہی تھی۔ موسم میں سردی کی شدت بھی کچھ بڑھی تھی۔ سردی کی شدت سے اس کا چہرہ پورا سرخ تھا اور ناک تو جیسے لال ہو گئی تھی۔ قلو کا اثر برہمٹا ہی جا رہا تھا۔

اسے پتا تھا، اب طبیعت بگڑنے لگی ہے۔ اب بگڑے گی تو سنبھلنے کا نام نہ لے گی۔ اس کا السٹریک کر لاوا بن گیا تھا۔ اندر گرمی کی شدید لہر تھی اور باہر جسم تھر تھرا رہا تھا، مگر وہ ہر کیفیت سے لاپرواہ بے زار اور بے چین گھر کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اسے فکر تھی، بچے اکیلے اور۔۔۔ پریشان ہوں گے۔ دوسری طرف

اسے زینی کی فکر کھا رہی تھی۔ چہرے پر سوچ کے آثار تھے وہ کتے قدموں سے تھیلا ہاتھ میں لیے کھڑی آئی۔

یہ قدرے دور ان علاقہ تھا۔ چھوٹی سی بستی تھی اور چند گھروں کے بیچ فاصلہ بہت زیادہ۔ بیچ میں کئی پلاٹ خالی تھے اور کچھ زیر تعمیر۔ ایک دم اجنبی ماحول۔ نہ کوئی جاننے والا، نہ پوچھنے والا۔ ایسے میں بچوں کو اکیلا چھوڑنا بہت مشکل تھا۔

مگر زینی کی جدائی نے اسے ختم کر دیا تھا۔ جیسے ایک بے چین تلاش تھی۔ وہ ہر روز اس جگہ جاتی۔ ٹھہرتی، بیٹھتی، انتظار کرتی، پھر آجاتی۔

پالکوں کی سی کیفیت ہو گئی تھی، بچوں کی الگ شکایت ہوتی کہ چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، فاطمہ روکتی اور شانی خاموش آنسو بہاتا رہتا۔

وہ ماں تھی۔ کلیجہ پھٹنے لگتا۔ کھانا پینا تو ویسے ہی حرام ہو گیا تھا۔ بچوں کا سوچ کر قدم اور تیز ہو گئے تھے۔ گاڑی گھر سے کافی دور رکوائی تھی۔

وہ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر آگے بڑھی۔ فاطمہ اور شانی کب سے کھڑکی سے لگے کھڑے تھے انہیں انتظار کرتے ہوئے بھی ڈھائی تین گھنٹے ہو گئے تھے۔

آگے روشنی کم تھی۔ پتھر بچے ہوئے تھے رستے میں وہ بچتی بچاتی دروازے تک آئی۔ لکڑی کا دروازہ

”اور ہمیں زینی ضرور مل جائے گی۔ ان شاء اللہ کو
فاطمہ۔“ شانی نے امید کی جی کی لو برعادی۔ ان شاء اللہ
کہہ اور کہلو اگر۔

وہ دونوں سلمان کے تھیلے اٹھا اٹھا کر کچن کی طرف
لے جا رہے تھے اور کینٹ میں سیٹ کر رہے تھے۔ وہ
ان کی ماں تھی جو انہیں دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔



یہ وہی جگہ تھی اس کا گھر اس کا اجڑا ہوا گھر جو
ڈھے ڈھے گیا تھا۔ اسے اب بھی وہ خوف ناک شب یاد آ کر
ڈراتی تھی جب اس کی نانی اس سے چھڑی تھی۔ جب
اسے غلطی سے کسی اور کستی میں ڈال دیا گیا تھا اور وہ
کہیں کی کہیں پہنچ گئی تھی۔
ایک ماہ سیلاب زدگان کے کیمپ میں رہ کر اس کا برا
حال ہو گیا تھا۔

تب ہی اسے ابو ذر جیسا فرشتہ ملا تھا جو اٹھا کر اس بچی
کو اپنے پہاڑی امیریا والے گھر لے آیا تھا۔ اسے ابو ذر
کے گھر میں لگے بھگ دو ماہ ہو گئے تھے۔

ابو ذر چند دن گھر سے باہر ڈیوٹی پر ہوتا پھر کچھ دن
آتا اور چلا جاتا۔ پچھلا پورا مہینہ وہ نہیں آسکا تھا۔ اس
کے ہوتے ہوئے وہ دو سو ساری بار گھر آیا تھا۔

اور اس بار ایک ہفتے کی چھٹی پر آیا تھا۔ اس کے
کہنے پر وہ اسے لے تو آیا تھا مگر چھتا رہا تھا۔ ڈوبا ہوا
مکان ڈھے چکا تھا بری طرح سے۔ اب پانی کافی اتر گیا
تھا۔ علاقہ خشک ہو گیا تھا کافی مگر مکان رہنے کے قابل
نہ بنچے تھے۔

یہ بستی خلی سطح پر تھی۔ سارے مکان ڈوب گئے
تھے اور ان کے مکان کی تو دیواریں بھی ڈھے گئی
تھیں۔ زینی اپنے مکان سے کچھ فاصلے پر اس کے
ساتھ بیٹھی بھاں بھاں کر کے روٹی رہی۔ اسے چپ
کرانا مشکل ہو رہا تھا۔

”بس بہت ہو گیا اٹھو اب۔ اتنی ٹھنڈ بڑھ گئی ہے۔
ابھی تو لہجہ کشن لگے ہیں بخار کے ڈاکٹر نے منع کیا
ہے سر دی میں باہر نکلنے سے۔“

کر تھک جاتا تو بولنے لگتا۔
”کل۔ تم لوگ پھر سے اسکول جاؤ گے۔ بہت
ہو گئیں چھٹیاں۔“

”زینی کے بغیر کون اسکول جائے گا امی!“ فاطمہ کا
لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔

”ہم اسکول جائیں گے فاطمہ۔۔۔!“ شانی کا بڑا پن
عود کر آیا تھا۔ ”زینی بہت جلد مل جائے گی۔ وہ بہت
ذہین ہے اسے بہت ساری چیزوں کا پتا ہے۔ وہ پہنچ
جائے گی کسی طرح۔“ نہ جانے وہ کسے بہلا رہی تھی۔
”کیسے پہنچے گی۔ وہ بہت چھوٹی ہے امی۔ اسے
رستوں کا نہیں پتا پھر نئے گھر کا اسے کیسے پتا لگے گا۔
ہمارے پاس فون نہیں نہ پرانا نمبر وہ کیسے رابطہ کرے
گی ہم سے۔“ فاطمہ کی آواز زندہ گئی۔ وہ پھر سے
روسنے لگی تھی شاید۔

اس نے گیلی آنکھوں سے فاطمہ کا چہرہ دھندلایا ہوا
دیکھا تھا سہل جو ڈوبا ہوا تھا۔ رُک سا گیا۔

”ہم سب کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ مگر اس کے بغیر
نہیں۔ ہم بابا کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔“ شانی بولتے
بولتے رُک گیا۔

”بابا کو زینی کا جانی ہے۔ وہ ہماری مدد کرے گا۔ وہ
زینی سے تو محبت کرتے ہیں نا امی۔“ فاطمہ کو جیسے کوئی
جلتی جلتی امید کی جی ہاتھ لگی تھی۔

وہ چپ ہو گئی فاطمہ کے چہرے پر امید کا سایہ دیکھ
کر کچھ نہ بول سکی۔

”وہ ہمارا فون نہیں اٹھاتے۔ ان کو نمبر بدلنے کی
عادت ہے۔“

”ہو سکتا ہے نمبر بدل لیا ہو۔ اگر نہ بھی بدلا ہو تو ان
کی بیوی فون اٹھاتی ہو اور وہ رائنگ نمبر کہہ کر فون رکھ
دیتی ہو۔“

شانی کی شکایتیں بھی ٹھیک خدشے بھی درست۔
فاطمہ کی امید کی جی بھنے لگی جیسے۔

”سارا آئی اور انکل سفیر آنے والے ہوں گے
آج یا کل میں پہنچ جائیں گے۔ وہ لوگ ہماری مدد کریں
گے۔“

جاری تھی۔ کہانی سناتے ہوئے ابو ذر جیسا چٹان سا
آوی نرم ہو گیا تھا۔

لجھ سمندر کی گہرائی لیے تھا۔ جس میں اس کا من
ڈبکیاں لگا رہا تھا۔

وہ زینہ کے سوالوں پر مسکرا رہا تھا اور آنکھوں کی نمی
بھی صاف کر رہا تھا۔

اسکرین جانے کیوں دھندلی لگنے لگی تھی۔ حالانکہ
اس نے مضبوطی سے اسٹیرنگ تھام رکھا تھا۔ پہاڑی
علاقے کی طرف جانے والی سڑک آگئی تھی۔



ابو ذر ننھی پری کو یوں ہی اٹھائے اٹھائے آیا تھا۔
یہاں تک پہنچنے میں رات بہت ہو گئی تھی۔ یہاں سے
شہر تک دو ڈھائی گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی تھی۔

اور پھر زینہ کے گھر تک اور لمبا سفر۔ وہ ایک الگ
ہی شہر تھا اور یہ پہاڑی علاقہ خاصا دور تھا۔ اسے پہنچتے
پہنچتے رات کے ڈھائی بج گئے تھے۔

زینہ سوئی ہوئی تھی۔ وہ اسے لاؤنج والے صوفے پر
لٹا کر اس کے اوپر بڑا سا کبل ڈال کر اپنے کمرے میں آیا
تو اسے جاگتا ہوا پایا۔

”کیسی ہو یقیناً“ کسی ہی جیسی صبح تھیں۔“
اس کو خاموش پا کر وہ مسکرا کر بولا تھا اور پھر کپڑے
نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ واپس آیا تو جوں کی
توں بیٹھی تھی۔

”کھانا کھا لیا؟“ وہ اس سے کچھ فاصلے پر لیٹ گیا۔ وہ
خاموش تھی۔

”کچھ پوچھا ہے میں نے۔“
”کھا لیتا۔ اگر نہیں کھایا ہوتا؟“

”تو اپنے ساتھ زیادتی کرتیں۔ اتنی دیر بھوکے بیٹھے
کر۔“

وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر سوتا ہوا اور وہ خونخوار نظروں
سے دیکھتی مسخ بدل کر لیٹ گئی۔



صبح وہ اٹھا تو زینہ اٹھ گئی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے

”یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ مجھے نہیں جانا۔“
اس کے رونے میں کمی واضح ہوئی تھی۔ درحقیقت وہ
روتے روتے تھک گئی تھی۔ اب رویا بھی نہیں جا رہا
تھا۔

”ہم یہاں پھر آجائیں گے۔ ابھی یہاں کوئی نہیں
ہے۔ ہم تمہاری امی کو ڈھونڈ لیں گے۔ تم ابھی چلو۔“
اس نے اسے کندھے پر اٹھالیا۔

”یہاں پریاں آتی ہیں۔“ وہ اس کی پشت پر چٹی
تھی اور چھوٹی سی بانہیں اس کی گردن میں لپیٹی تھیں۔
”ایسی کھنڈر جگہ پر پریاں نہیں آتیں۔“ وہ ہنسا
تھا۔

”آپ کو پریوں کی کہانی آتی ہے؟“
”مجھے بہت ساری کہانیاں آتی ہیں۔“ وہ اسے

پشت پر اٹھائے بڑے مزے سے آگے بڑھ رہا تھا۔
جیب ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس نے فون کر کے
دوست سے کچھ دنوں کے لیے گاڑی رکھنے کی بات کر لی
تھی۔ ڈرائیو ر جا چکا تھا۔

اس نے دروازہ کھول کر اسے بیٹھایا اور دوسری
طرف آکر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ وہ اس کی
جیکٹ میں پوری پیک بیٹھی تھی۔ صرف گردن اور سر
باہر تھا۔ چھوٹے چھوٹے بالوں کو اس نے ٹوپی سے
ڈھانپ لیا تھا اور اب سپر اتار کر چاکلیٹ کھا رہی
تھی۔

”کہانی سنائیں نا۔“
”کہانی یہ ہے کہ ایک جگہ ایک پری رہتی تھی۔“
وہ یاد کرنے لگا کہ آگے کیا کہنا ہے۔

”یہ کہانی مزے کی نہیں ہے، دوسری سنائیں۔“
”تمہیں پتا ہے میری بھی ایک بیٹی ہے۔ بالکل

تمہاری طرح تمہارے جیسی۔ پیاری سی۔ چھوٹی
سی۔“ اس کے لہجے میں شہراؤ تھا۔ محبت تھی اور اندر
چھپا ہوا دکھ جو وہی سمجھ پاتا تھا۔ اس چھوٹی سی بچی کو تو
صرف اپنی جیسی پری کی کہانی سے مطلب تھا۔

وہ بڑی توجہ سے ریپرز جیکٹ کی جیب میں اس کے
اس کی طرف دیکھ کر سن رہی تھی۔ کہانی خود بخود بنتی

سے تم اس بچی کو اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہو۔“
 ”تم ایک معصوم بچی سے حسد کر رہی ہو۔ تم ہوش
 میں ہو؟“ اب بات کاٹنے کی باری ابو ذر کی تھی۔
 ”مجھے ہر اس چیز سے حسد ہے جو تمہاری زندگی میں
 میری جگہ لے سکتی ہے۔ جو تمہیں مجھ سے دور کر سکتی
 ہے۔“

”تم غلط فہمی کا شکار ہو ایک معصوم بچی سے تم خود کو
 کمپیئر کر رہی ہو۔“

”ہاں۔۔۔ ہاں۔۔۔ کر رہی ہوں کمپیئر کیونکہ یہ
 معصوم بچی میرا وقت میری جگہ لے رہی ہے۔“

”تمہیں شرم آتی چاہے ایسی بات کرتے
 ہوئے۔“ اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رکھا تھا۔

”اب تم اس کی وجہ سے مجھے مارو گے۔“ وہ اور زور
 سے چیخی۔ آواز پھاڑ سے ٹکرا کر پٹی تھی۔

زینبی حواس باختہ ہو کر اٹھی تھی۔ ایسے لڑتے تو اس
 نے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔

ان دونوں کی آوازیں تیز ہو گئی تھیں۔ زینبی خوف زدہ
 ہو کر سیڑھیوں کی طرف بھاگی اور یہیں سے اس کا پیر
 پھسلا تھا۔

”زینبی۔۔۔ رکو۔“ وہ اس کے پیچھے لپکا تھا۔ اسے
 گرتے دیکھ کر جیسے جان نکل گئی تھی۔

”اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔“ وہ
 تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے چیخ کر اس سے بولا جو

خونخوار تاثرات لیے کھڑی تھی۔ رانی نے ڈائن کا
 روپ بدل لیا تھا۔



وہ صبح کا پہلا پھر تھا۔ اس کی آنکھ لگی ہی نہیں تو
 بیداری کیسی۔ بلکہ آنکھ اب لگنے کو تھی۔ مگر وہ جھل
 دماغ نے جتنا سونے کی رٹ لگائی ہوئی تھی دل اتنا ہی
 پریشان تھا۔ بچے سوئے ہوئے تھے۔

وہ بڑی آہستگی سے اٹھی تھی کہ معمولی سی کھٹکے سے
 بھی وہ اٹھ جاتے۔ وہ زینبی تھی جس کے سامنے بین

بجالی پڑتی تھی۔ شور کرنا ہوتا تھا۔ کھینچا تانی ہوتی تھی۔

اس کے پاس آیا۔
 ”بسکٹ کھانے ہیں۔“ اس نے نفی میں سر ہلایا۔

”پھر کیا کھانا ہے؟“
 ”کچھ نہیں۔“ اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔

”کیا ہوا ہے؟ کیا آئی نے ڈانٹا ہے؟“ اس نے
 عائشہ کی طرف اشارہ کیا زینبی نے بڑی معصومیت سے

اثبات میں سر ہلایا۔
 وہ اٹھا اور چکن کی طرف آیا۔

”تم نے اسے ڈانٹا ہے ایک بچی کو۔“
 ”اس بچی نے میری زندگی حرام کر دی ہے پچھلے دو

ماہ سے۔“
 ”اس بچی نے تمہاری زندگی حرام کر دی ہے پچھلے

دو ماہ سے؟“ اس نے تعجب سے اس کی بات دہرائی۔
 ”ہاں۔۔۔ تم آخر مان کیوں نہیں جاتے کہ یہ تمہاری

بٹی ہے اور تم اسے یہاں لے آئے ہو۔“ وہ زور سے
 چیخی۔

”یہ میری بٹی نہیں ہے مگر بٹی جیسی ضرور ہے
 عائشہ۔“ وہ بے بسی سے بولا۔

”تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مسلسل جھوٹ بول
 رہے ہو مجھ سے۔ تم نے کہا تھا کہ تم سب کچھ بھول

جاؤ گے۔ اپنی پوری فیملی کو بھول جاؤ گے۔ تم پوری
 زندگی ان کا ذکر نہیں کرو گے۔ مگر تم اپنی بٹی کو لے

آئے اور اب خد متیں کروا رہے ہو مجھ سے۔“ وہ
 رو بانسی ہو گئی بولتے ہوئے۔

”دیکھو۔۔۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے نہ میں یاد رکھنا چاہتا
 ہوں۔ یقین کرو وہ سب سچ ہے جو میں نے بتایا تھا۔

سیلاب میں یہ بچی۔۔۔“
 ”بس کرو ابو ذر! بہت جھوٹ ہو گیا۔“ اس نے

تیزی سے بات کاٹ دی اس کی۔
 ”تم مجھے جھوٹا کہہ رہی ہو۔“ وہ اس کی طرح چیخ

نہیں پایا۔ وہ لہجے میں در آیا تھا۔
 ”ہاں۔۔۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ

تمہاری بٹی ہے۔ تم اپنی بیوی سے بھی ملتے رہے
 ہو گے۔ تمہیں میرا کوئی خیال نہیں ہے۔ پچھلے دو ماہ

گی۔ ”دھمکی اثر کر گئی وہ چھلانگ مار کر نیچے اتری۔
”چھٹی پر مار کیٹ لے جائیں گی؟“ واش روم کی
طرف جاتے ہوئے ایک بار پھر یسین دہانی چاہی تاکہ
پروگرام ملتوی کرے۔

”کیوں۔۔۔ کیارات وعدہ نہیں کیا تھا۔“ وہ کبیل سے
کر کے رکھتے ہوئے بولی۔
”وہ تو ہر روز کرتی ہیں۔“

”وعدے اور بات میں فرق ہوتا ہے نا اور جب وعدہ
کیا ہے تو لے ہی جاؤں گی۔“

”آپ نے کہا تھا کہ مسلمان کی زبان بھی وعدہ ہوتی
ہے۔“ جو کہ وہ کر دکھاؤ۔“

”اچھا بابا! اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔“ وہ جاتے
جاتے با آواز بلند بولی اور بچن میں آگئی۔ رات والا آٹا
فریج میں گوندھ کر رکھا تھا۔ وہ نکالا۔ جب تک شانی
آچکا تھا وہ آٹلیٹ کا آمیزہ تیار کرنے لگا۔ فاطمہ برتن
نکالنے لگی۔ جب تک اس نے روٹیاں ڈالیں فاطمہ
اور شانی نے آٹلیٹ تیار کر لیے تھے۔ ایک ہاف فرائی
انڈہ ساہ چپاتی تلی کے آگے رکھ آئے۔

”روزیہ چپاتی جس پہ ایک قطرہ تیل نہیں ڈالتے تم
لوگ۔ روزیہ بنا نمک مرچ کے انڈہ وہ بھی کیا۔ تنگ
آگئی ہوں کھاتے کھاتے۔“ روز کی طرح پختا بھی ان
کی ڈیوٹی تھا۔

”کیا ہے اماں۔ کھا لیا کریں کبھی شکر کر کے بھی۔
ڈاکٹر نے سخت پرہیز کو کہا ہے یہ بھی میں دیتی ہوں کہ
اس سے زیادہ کیا پرہیز ہو گا۔ آپ کو خوش کرنا تو بڑا
مشکل ہے۔“ پینہ صاف کرتی روٹیاں لے کر بچن
سے باہر آئی اور زینی کو پھر آواز دی۔

”کہاں رہ گئی ہو زینی۔ سو تو نہیں گئیں۔ آجاؤ بیٹا
شباباش۔۔۔ در ہو جائے۔“ کمرے میں جا کر اب وہ اپنے
کپڑے نکالنے لگی جو رات میں استری کر کے رکھے
تھے آ بھی جاؤں گی۔“ روزیہ بار بار بھانپتا تھا۔

”کتی بار کہا ہے دروازہ نہ بجایا کریں۔“ وہ بددلتی
واش روم سے باہر آئی۔

”بہت ہو گیا استادی مت جھاڑو زیادہ اپنی۔“ کھینچ

وہ آہستگی سے دروازہ بند کر کے باہر آئی اور صحن
میں اترتی بیڑھیوں کے چار زینوں کے اوپر بیٹھ گئی۔
دھوپ کا نام و نشان تک نہ تھا۔

اسے یاد آیا زینی کو سرویوں کی دھوپ کتنی اچھی
لگتی تھی اور گرمیوں کی دھوپ سے اتنی ہی چیز ہوتی
تھی اسے۔ پھر اسکول جانے سے تو اس کی جان جاتی
تھی ماضی قریب کے منظر کھٹا کھٹ سامنے آنے لگے۔



یہ صبح بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ نہ ہو تو ہمارے
سارے کام دھبے کے دھبے رہ جائیں۔ ایک
کروٹ دائیں لی اور دوسری بائیں۔ پھر کھڑکی کی
درزوں کو چیرنی روشنی کی لیکر کو دیکھا اور زوردار جمالی
کے ساتھ بستر چھوڑ کر سامنے گھڑی پر نظر ڈالی۔
فجر کے بعد بمشکل چیز منٹ ہی آگے لگتی تھی اور پھر
اس کمرے میں آنے والی روشنی کی پہلی لیکر ہی جگا
دیتی۔ وہ لحاف ہٹا کر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔
کھڑکی کا پٹ کھولتے ہی سورج کی کرنیں اندر داخل
ہوئی تھیں۔

”شانی فاطمہ زینی! اٹھو شاپاش جلدی اٹھو بچے۔“
شانی تو اس کی پہلی آواز پر ہی جاگ جاتا تھا۔

حسب معمول وہ اٹھا اور آنکھیں ملتے ہوئے واش
روم کی راہ لی۔ فاطمہ بھی اٹھ چکی تھی۔

مگر زینی کا آسانی سے اٹھنا محال تھا۔ اس پر چیخنے
چلانے کا اثر کم ہی ہوتا تھا اور اس نے روز والی ترکیب
آزماتے ہوئے اس کے اوپر پڑا کبیل تیزی سے کھینچا
تھا۔

”مہی۔۔۔ کیا ہے۔ کتنی بار کہا ہے کسی کے اوپر سے
اس طرح کبیل نہیں کھینچتے۔“ وہ روز کی طرح چیخی
تھی۔ سبق پڑھنا تو ناپسند مگر پڑھنا تو وہ خوب جانتی تھی۔
”ٹھیک ہے تو پھر سوتی رہو۔ لیٹ ہوئے پر پیچری
تمہیں پوچھے گی۔“

”اور آج بازار بھی میرے ساتھ فاطمہ ہی جائے

نکڑے اور آلیٹ کے چند نوالے کھا کر ہی دل خوش ہوا تھا۔

اس کی موجودگی میں سخت برہیز اور غیر موجودگی میں فل آزادی مناتیں اور وہ سوچتی رہ جاتی کہ اتنے پرہیز اور دوا کے باوجود وہ ٹھیک کیوں نہیں رہتیں۔ اب اسے کیا پتا۔



”ہو گئی وقت کی پابندی، آج پھر ایک گھنٹہ لیٹ ہو۔“ وہ اسے کلاس کے باہر ہی مل گیا تھا۔

”جتنا وقت کو پکڑنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے کھسک جاتا ہے۔ یہ بتاؤ بیوی کیسی ہے تمہاری۔“ وہ عجلت میں کلاس کی طرف جاتے ہوئے رکی کہ وہ تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔

”آج صبح تو اسے ٹھیک ٹھاک چھوڑ آیا ہوں۔“

”ویسے۔۔۔“

”نلا سنی کلاس میں جھاڑنا بھی تو خیر مناؤ، خطرو سر پر منڈلا رہا ہے۔“ اس کا اشارہ برہیل کی طرف تھا جو کوریڈور سے گزرتے ہوئے شاید اسی طرف آرہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کلاس میں چلی گئی۔

اس نے خفت سے بچوں کے سلام کا جواب دیا اور کتاب کھول کر کھڑی ہو گئی، پہلے ہی گھنٹہ ضائع ہو گیا تھا۔

برہیل کلاس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس نے توجہ نہیں دی۔

”مسٹر سفیر! آپ کلاس سے باہر کیا کر رہے ہیں۔“ وہ اب اس سے مخاطب تھے۔

”میں کلاس لے چکا ہوں، میری دوسری کلاس شروع ہونے میں کچھ منٹ باقی ہیں سر۔“ اس نے گھڑی دکھاتے ہوئے کہا۔

”سزا کے طور پر بچوں کو باہر کھڑا رکھنے والے ٹیچرز کی دیر آنے پر کیا سزا ہونی چاہیے مسٹر سفیر۔ انہیں بھی کلاس سے باہر نہ کھڑا کیا جائے یا پھر اسکول سے ہی۔“ وہ درحقیقت اسے ہی سنا رہے تھے۔

”اچھے استادوں کو باہر کرنے کی صورت میں ان

کر اسے قریب کیا پال بنائے، لوشن لگایا، بیک چیک کیا اور اسے باہر لے آئی۔

”جلدی جلدی ناشتا کرو، اس سے پہلے اسکول کی دین آجائے۔“

”بچوں کو سانس تو لینے دیا کر ہاجرہ! ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے۔“ نالی برے برے منہ بنا کر نوالے لیتے بیڑا نہیں۔

”سانس تو لے لیا کرو۔ کبھی اس طرح بھی کہہ دیا کریں اماں۔ بچوں کی فکر بہت رہتی ہے آپ کو اپنی بچی کی فکر ذرا نہیں۔“ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے چائے بنانے لگی۔

”ساری زندگی تو تیری فکر کرتے گزر گئی میری۔“

”رہنے میں اماں۔“ اس کی ہنسی جھوٹ گئی۔

”تو وہ نہ دینا مجھے خدا کے لیے سیدھی سیدھی اچھی پہنلی چائے بنا کر دو۔“

اسکول کی دین آگئی تھی۔ شانی اور فاطمہ کھڑے ہو گئے۔ ”زینی جلدی کرو، بچے گاڑی نہیں رکے گی زیادہ دیر۔“ وہ وہیں سے چینی آ رہے، آج نہ بیچ بچوں کو اسکول ہاجرہ! دیکھ موسم بدل رہا ہے۔ بارش ہو گئی تو۔“

”نہیں نانی! میں دعا کروں گی اللہ سے کہ بارش نہ ہو۔“ زینی وہیں سے چینی۔

”اول ہوں۔ زینی بیٹا دعا کر کے اللہ کی رحمت کو نہیں روکتے۔“

”مگر مجھے آج مارکیٹ جانا ہے۔“ کہتے ہوئے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔

وہ بچوں کو دروازے تک چھوڑ آئی۔

”زینی کا خیال رکھنا۔“ دین جب تک نظر سے او جھل نہ ہوتی تب تک وہ وہیں کھڑی رہتی تھی۔ ان کو روانہ کر کے خود تیاری پکڑی۔ جلدی جلدی دو چار نوالے لیے اور پرس اٹھا کر میسے گنتے ہوئے ہنہ چیک کیا۔ لسٹ بتائی۔ قائل اٹھائی اور اللہ حافظ کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ نالی پیچھے بیڑا تکی رہ گئیں۔ اس کے جاتے ہی انھیں بچوں کے بچائے ہوئے پر انھوں کے

اسے دیکھنے لگا۔
 ”ہو گا کوئی فضول سوال ہی۔“ وہ اس سے نظریں
 چر رہی تھی۔
 ”تمہاری نظریں ہو گا۔“ وہ اپنے برگریں کھینچ
 اور مایونیز ڈالنے لگا تھا۔



”آپ مجھے اس اسکول سے نکال کیوں نہیں دیتیں
 امی!“ وہ اس کے بازو پر سر رکھے آنکھیں موندے
 ہوئے لیٹا تھا۔

”اسکول میں اب کیا برائی ہے بیٹے! اتنا اچھا اسکول
 تو ہے۔“

”برائی اسکول میں نہیں ہے، ہم میں ہے۔ اس
 لیے کہ ہم فیس وقت پر نہیں دیتے جو بہت بری بات
 ہے۔ آج بھی پیچھے نے کہا، اگر انورڈ نہیں کر سکتے تو
 اسکول بدل لو۔“

اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر
 سیدھا ہو بیٹھا۔

”شانی، سوری بیٹے۔ ہم کچھ دنوں میں فیس
 دے دیں گے۔ بس سگریٹ ل جائے دفتر سے۔ میں
 مانتی ہوں کہ لیٹ ہو گیا ہے۔ آپ پیچھے سے کہیں مجھ
 سے بات کیا کریں ڈائریکٹ۔“

”امی! ہمیں نکال لیں اس مہنگے اسکول سے۔
 ہمارے مسئلے بڑھ رہے ہیں۔“

”نہیں بیٹا! میں کس لیے لاؤ تو کہیاں کرتی ہوں۔
 تم لوگوں کے لیے نا۔ میں وعدہ کرتی ہوں۔ بس دو دن
 میں جمع کروادوں گی۔“ اس نے کہتے ہوئے اسے ساتھ
 لگایا۔



لطیف آباد نمبر آٹھ۔
 بازار کھجور بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا پورا حیدر آباد
 اسی بازار میں گھوم رہا ہے۔

زینبی کو اسکول سے لے کر اس نے ہسپتال کا رخ
 کیا۔ بمشکل ڈاکٹر نے چند منٹ کی مہربانی کی اور نسخہ لکھ

تاوان بچوں کے ساتھ ساتھ اسکول کا بھی نقصان
 ہو سکتا ہے سر۔ ”مسفیر کو ان کی بات بری لگی تھی۔ مگر
 اس نے نارمل لہجے میں جواب دے دیا تھا۔

”اچھے پیچھے۔ رول توڑنے والے۔“ وہ طنزیہ
 مسکرائے اور رخ کمرے کی طرف کیا۔

”تو پھر مس ہاجرہ! چھٹی کے بعد میرے آفس میں
 ملتے ہیں۔“ ان کا انداز دمکانے والا تھا۔

ہاجرہ سر جھٹک کر کام میں لگ گئی۔ ذہن اسی طرف
 تھا۔ وہ بریک میں آ کر کینٹین میں بیٹھ گئی چائے لے
 کر۔ سرور سے پھٹ رہا تھا سوچ سوچ کر۔

”پھر سر میں درد ہے؟“ مسفیر اس کے سامنے والی
 کرسی پر بیٹھ گیا۔

”بہت درد ہے۔“ اس نے پریشانی سے پیشانی
 مسلی۔

”پر نسل سے بات ہوئی؟ وہ اب بھی تمہارا ہی پوچھ
 رہے تھے۔“

”جس دن اسکول چھوڑنے کا ارادہ ہوا، اس دن
 تفصیل سے بات کر لوں گی۔ فی الحال اتنی ہمت نہیں۔

مجھے پتا ہے وہ مجھے بلیک میل کرے گا۔ اسے بھی پتا ہے
 کہ یہ نوکری میری مجبوری ہے۔“

”تم اخبار کی نوکری چھوڑ کر یہیں پوری توجہ دو
 ہاجرہ! بہت زیادہ لوڈ ہے کام کا تم پر کچھ رحم کرو خود پر۔“

”خود تو اخبار میں دس دفعہ ٹرائی کر آئے ہو۔ مجھے
 چھوڑنے کا مشورہ دے رہے ہو کمال ہے۔“

”ارے میری تو بیوی وہاں ہے مجبوری ہے میری۔
 اس پر چیک رکھنا ہے۔ سمجھا کرو۔“ اس نے آنکھ مار کر
 کہا تو وہ ہنس دی۔

”اسے پتا چلے تو۔“

”گلا نہیں دبا سکتی وہ۔ شوہر ہوں اس کا۔“
 ”قائدہ اٹھارہ ہے ہو شوہر ہونے کا۔“

”ہر کوئی اٹھاتا ہے۔ تمہارے شوہر سے پھر بھی کم
 ہی اٹھاتا ہوں۔“

”اس کی تو بات ہی نہ کرو۔“ اس کا موڈ آف ہو گیا۔
 ”ایک سوال پوچھوں تم سے؟“ وہ افسوس سے

سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔" وہ ڈپٹی آگے بڑھی اور ہاتھ کے اشارے سے رکشہ والے کو بلا دیا۔

"وہ بابا ہی تھے۔ آپ نے مجھے ملنے نہیں دیا بابا سے۔ مجھے پتا ہے، وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے۔ فون پہ بھی بات نہیں کرنے دیتیں آپ۔ ملنے بھی نہیں دیا۔" وہ پھر شروع ہو چکی تھی۔ اس نے زور کا پھٹر جڑ دیا اور زبردستی لے کر رکشہ میں بیٹھ گئی۔

"نانی سے شکایت لگاؤں گی آپ کی؟"

وہ چلائی تو اس نے دوسرے گال پر بھی تھپڑ لگا دیا۔ جانے کیوں غصہ بڑھ گیا اور زینہ کی ہنسی کو بجھنے لگی وہ رو رہی تھی اس نے کچھ منٹ دیکھا پھر خود سے بھینچ لیا۔ ٹھکنے لگی پیار کیا۔

"اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ وہ کوئی اور تھے بیٹا!"

ساتھ لگا کر تھکی دی۔

"وہ بابا تھے۔ بابا ہی تھے۔" وہ روتے ہوئے بولی۔

"میں نے پہچان لیا تھا۔"

"اچھا ٹھیک ہے، اب چپ رہو گھر جا کر کوئی ذکر نہیں کرنا۔ ورنہ بہت پٹائی لگاؤں گی۔"

اس نے "ہونہر" کے انداز میں غصے سے سر جھٹکا۔ اس نے بسورتی ہوئی زینہ کو ساتھ لگایا اور بھاگتے مناظر دیکھنے لگی۔ منظر کا ایک دھندلائے تھے شاید آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ جو اس نے بے حسی سے رگڑ ڈالیں۔ رونادھونا بچوں کا کام ہے۔ اس نے خود کو ڈیٹا، مگر زینہ اس کی آنکھوں میں دیکھ چکی اور سمجھ چکی تھی۔

"مئی! وہ بابا نہیں تھے۔ کوئی اور تھے۔" اب وہ اسے بہلا رہی تھی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگیں۔ جیسے ایک دوسرے کی کمزوری سمجھ گئی ہوں۔ ایک ماں تھی اور ایک ماں کی زینہ تھی۔



"آگئی باجرہ! ہمیشہ دیر کر دیتی ہے تو۔" وہ ہینہ ہینہ گھر پہنچی تو اماں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ اس نے بڑا سا دوپٹا اتار کر تخت پر رکھا اور سانس لینے کے لیے چوکڑی

دیا۔ پھر چار گولیاں ملیں تو دورہ گئیں۔ درزی کی دوکان پر رش نے پورا گھنٹہ اسے وہیں کھڑا رکھا۔ خدا، خدا کر کے درزی کو بچوں کے کپڑوں کا ناپ دیا۔ ڈیزائن سمجھایا اور زینہ کو گھسیٹتی ہوئی جتنا جلدی بلایا نکلنے کی کوشش کرتی اتنا رش کے اندر پھنس جاتی تھی۔

"مئی وہ فراگ۔" وہ پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے چلائی تھی۔

یہاں آکر اس کے اندر کتنی خواہشیں بیدار ہوتی تھیں۔ بازار سے ہمیشہ وہ رو دھو کر نکلتی تھی، جرمے کی صورت آئس کریم لے کر چپ ہو گئی۔ سودا کافی سستا تھا۔

"مئی! بابا۔ وہ دیکھیں بابا۔" دفعتا "وہ چلائی۔ وہ پیچھے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ زینہ پوری گھوم گئی اسے کھینچ کر اور وہ شدید۔ یہ اس کا شوہر ہی تو تھا۔ کیا خوشی تھی قیصر وحید کے چہرے پر۔ اکیس سالہ نوجوان لگ رہا تھا شکل اور طبع سے۔ آئس کریم کپ ہاتھ میں تھامے اس سینہ کے ساتھ ساتھ چلتا مسکراتا اور اس کی دلجوئی کرتا جو مصنوعی نظکی سے بار بار سر جھٹک رہی تھی اور وہ اسے منانے کے جتن کر رہا تھا۔ التجا سے انداز میں۔ اس کا دل کیا خاک جلتا تھا جو پہلے جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اس نے زینہ کا ہاتھ کھینچا اور آگے بڑھنے لگی۔ ابھی ان لوگوں کی نظر ان کی طرف نہیں پڑی تھی۔ وہ یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔

"چلو زینہ! وہ کوئی اور ہیں، بابا نہیں۔" وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ واقعی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ جب گھر سے گیا تھا تو بال بڑھے ہوئے تھے۔ شیو بھی بڑھی ہوئی تھی۔ حلیہ رف ہی رہتا تھا اس کا گھر میں۔ غنڈہ لگتا تھا دہشت گرد، جواری سا، وہ منہ پھیرتی تھی۔

"وہ بابا ہی ہیں۔" زینہ آگے بڑھی، مگر وہ لوگ دوکان کے اندر گھس گئے تھے۔

"آپ مجھے بابا کے پاس لے چلیں، مجھے ملنا ہے بابا۔"

"بتایا نا کہ بابا نہیں تھے۔ وہ کوئی اور تھے۔ تمہاری

”کٹ لٹی یا کٹ دی گئی۔“ وہ بڑبڑاتی اور اسے سینے

کے لیے تکیہ دیا۔

”سو جاؤ شانی!“ وہ بتی بند کر کے لیٹ گئی۔

”انہوں نے کہا کہ وہ کل یا پرسوں کسی بھی وقت

رات گئے گھر آئیں گے۔ طے زینی نے الارم لگایا ہے

دوبچے کا۔ اب وہ روز الارم لگا کر دوبچے اٹھے گی۔“

وہ اس سے کچھ فاصلے پر لیٹا ہوا بتا رہا تھا۔

”رات گئے چوروں کی طرح اپنے ہی گھر میں۔“ وہ

بڑبڑاتی۔ اس نے سرخ بدلا۔

”مئی! الارم ہٹا دوں۔“ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔

”تم ملنا نہیں چاہتے۔“

”وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آ رہے انہیں

صرف زینی کی پروا ہے۔“ اسے یہی شکایت تھی۔

”انہیں کسی کی پروا نہیں۔“ وہ نہیں کہنا چاہتی

تھی۔ مگر سچ یہی تھا۔

”وہ صرف زینی سے محبت کرتے ہیں۔ وہ مجھ سے

اور فاطمہ سے محبت نہیں کرتے۔“

”وہ کسی سے محبت نہیں کرتے۔“ وہ کہہ نہیں

پائی۔

”میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے کیوں محبت نہیں

کرتے کیوں کہ میں آپ جیسا ہوں۔ زینی ان پر گئی

ہے۔ ان کی طرح خوب صورت ہے۔ ان کو صرف

گورے اور خوب صورت لوگ پسند ہیں۔“ شانی کے

لبجے میں تلخی آگئی تھی۔

”آپ بھی بہت خوب صورت ہیں بیٹا! ایسے نہیں

سوچتے۔“ وہ اندھیرے میں اپنے بیٹے کی چمکتی آنکھوں

میں تیرتے ہوئے پانی کو دیکھ رہی تھی۔

”میں اس لیے خوب صورت ہوں کہ میں آپ

جیسا ہوں اگر میں آپ جیسا نہیں تو میں خوب صورت

بھی نہیں۔ مئی! مجھے بابا جیسا نہیں بننا۔ میں آپ

جیسا ہی رہنا چاہتا ہوں۔“ وہ اس کے بازو پر سر رکھ کر

لیٹ گیا۔

”اس لیے کہ میں اچھا بننا چاہتا ہوں اور سفیر انکل

کہتے ہیں اچھے انسان ہی درحقیقت خوب صورت

مار کر بیٹھ گئی۔

”کیوں جاتی ہے لطیف آباد کے بازار۔“ اس کی

حالت دیکھ کر وہ پھر بولیں۔

”اماں۔ میں ایک غریب باپ کی بیٹی ایک تالاق

شوہر کی بیوی میرے لیے لطیف آباد کا بازار ہی بھلا۔

بڑے بازار بڑے لوگوں کے لیے ہیں۔“ اس نے ہنس

کر اپنا مذاق اڑایا۔

”تمہیں ہی چڑھا تھا فرماں برداری کا بخار کتنا منع

کیا تھا مت کرو یہ شادی مگر میری مانتی کہاں ہو۔ رچالی

اپنے باپ کے کتے کنگلے بھیجے سے بیاہ۔“ وہ کلس کر

بولیں۔

”اب اتر گیا ہے بخار اماں۔ ہاں کمزوری البتہ باقی

ہے۔“ وہ دھیرے سے ہنسی۔ اور پن میں چلی آئی روٹی

ڈالنے۔ فاطمہ نے آٹا گوندھ رکھا تھا۔ اس نے چولہے

پر توار کھا اور پیڑے بنائے۔

”مئی! زینی نے بابا کو دکھا ہے۔“ فاطمہ دوڑتی ہوئی

کمرے سے آئی تھی۔ اس نے زینی کو گھورا۔

”میری ٹیچر کہتی ہیں دنیا میں ایک شکل کے سات

لوگ ہوتے ہیں۔ وہ بابا جیسے تھے۔“ وہ ایک دم ہاجرہ

کے غصے سے ڈر گئی تھی۔



”وہ بابا تھے مئی۔ ان کے ساتھ کوئی عورت تھی۔“

شانی کافی سنجیدہ تھا۔ سونے سے پہلے اس نے ہاجرہ سے

کہا۔ وہ چپ ہو گئی۔

”آپ کو کیسے پتا شانی!“ اس کے پاس کہنے کو اور

کچھ نہ تھا۔

”زینی کی بابا سے بات ہوئی تھی کچھ دیر پہلے۔ وہ

کہہ رہے تھے کہ بال کٹوا لیے ہیں اور یہ بھی کہ وہ آج

کل نہیں ہیں اسی شہر میں۔“

”تو یہ نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کون تھی؟“ اب

سوال پوچھنے کی باری اس کی تھی۔

”تب تک فون کی لائن کٹ گئی تھی۔“ اس کے

سنجیدہ سے لہجے میں بہت کچھ تھا افسوس دکھ، شکوہ۔

”یہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔“
 ”کوئی فضول سوال نہیں چلے گا۔“ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی اور کام دیکھنے لگی۔
 ”اسے تم سے قطعی محبت نہیں بلکہ تمہاری پروا تک نہیں۔“

”پلیز سفیر! مجھے کام کرنا ہے۔“ اس نے کٹھنات اٹھالے۔

”اپنے کیبن میں جاؤ۔ یہاں کیا کر رہے ہو۔“ وہ ڈھیٹ بن کر بیٹھا رہا۔ اس نے کل کا اخبار ساتھ نہ لے جانے کا خود سے وعدہ کر لیا۔ بظاہر وہ سفیر سے بات کر رہی تھی سارا سامنے سے آئی دکھائی دی۔ اس سے پہلے وہ آکر کچھ کہتی اس نے سفیر کی کلاس لینا شروع کر دی۔

”تو تم نے کتنے دن کی چھٹی لی ڈرا۔“

”ہمیشہ کی چھٹی لے کر آیا ہوں۔“

”یعنی کہ نوکری چھوڑ کر؟“ وہ حقیقت میں حیران ہوئی۔ وہ مسکرایا۔

”دیکھو سارا! اپنے شوہر کا بچپنا ملاحظہ کرو ڈرا۔“
 نوکری چھوڑ کر آ گیا ہے حد ہوتی ہے لا پرواہی کی۔“
 ”میں نے اس سے کبھی کسی میچورٹی کی توقع نہیں رکھی۔“ سارا اچھوٹم چباتی ہوئی کیبن کے پاس کھڑی تھی۔

”اب میرے کون سے تین بچے ہیں جن کو پالنے کے لیے میں ہاجرہ کی طرح کولہو کا تیل بنا رہی ہوں۔“
 ”تم بار بار بچوں کی بات کر کے مجھے کیا جتنا چاہتے ہو۔“ سارا غیر ارادی طور پر غصہ ہو گئی۔

”میں نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ کہہ کر میرے دل میں بھی خواہش ہے کہ میرے دو تین بچے ہوں جن کے لیے میں کولہو کے تیل کی طرح کام کروں۔“ وہ کندھے جھٹک کر اٹھا۔

”خوب جانتی ہوں تم کیا جتنا چاہتے ہو۔ اگر بچے نہیں ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔“ سارا سنجیدہ تھی۔

”میں نے تمہیں کیا کہا ہے۔ میں تو ہاجرہ سے

ہوتے ہیں اور تمہاری می خوب صورت ہیں۔“
 ”سفیر انکل خود بھی بہت اچھے ہیں اور اچھے لوگوں کو سب لوگ اچھے لگتے ہیں۔“ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔

”بابا صرف خوب صورت ہیں مگر اچھے نہیں ہیں۔“

”ایسے نہیں کہتے بیٹھے وہ آپ کے بابا ہیں۔“

”جب ہی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔“ اس کا لہجہ پھوہ سا ہی ہو گیا۔

”اب وہ آئیں تو اپنی ساری شکایتیں ان سے کرونا۔ ویسے تو جنگ بری چیز ہے مگر کبھی کبھار اپنے لیے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنا پڑ جاتی ہے۔“

وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی اور وہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔



وہ اسکول سے دفتر آئی تو نئی خبر اس کی منتظر تھی۔ سفیر اسے گیٹ پر ہی مل گیا تھا۔

”یہ بتاؤ یہ خبر کیسی لگی۔“ اس نے اخبار اس کے سامنے لہراتے ہوئے پوچھا۔ وہ اخبار پکڑ کر ہیڈ لائن دیکھنے لگی۔

”مشہور سندھی شاعر قیصر وحید حیات اپنی پرانی محبوبہ شاعرہ کے ساتھ۔“

اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت اسے محسوس نہ ہوئی۔ اس نے اخبار کا گولہ بنا کر اسے تھما دیا۔

”کل تمہاری غیر موجودگی میں خبر لگ گئی تم ہو تمس تو شاید نہ لگتی۔ تمہیں افسوس ہوا ہو گا۔“

”قطعی نہیں۔“ وہ قطعیت سے کہتے ہوئے اپنے کیبن میں آ گئی۔

”پتا نہیں کیا سوچ کر تم نے اس گھٹیا آدمی سے شادی کر لی۔“ وہ ہونٹ کاٹتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا۔

”میں نے اس گھٹیا آدمی سے شادی کرتے وقت کچھ بھی نہیں سوچا جو بھی سوچا بعد میں سوچا۔“

”رکوا جرحہ ایبات سنو۔“ وہ پیچھے لپکا۔
”سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔“ سارا کو گھور کر
آگے بڑھا۔

”ہاجرہ رکو۔ سنو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تم غلط سمجھ
رہی ہو۔“ وہ پیچھے آیا مگر وہ رکشہ پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ
تیزی سے گاڑی کی طرف آیا۔ ”اب بیٹھو۔“ سارا کو
گھر کا اور اس کے بیٹھے ہی گاڑی اشارت کی۔
”نہیں یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ پہلے
ہی اپنے شوہر کی وجہ سے ڈسٹرب ہے بہت۔“ وہ
رکشے کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا یہاں تک کہ اس نے
رستہ روکا۔ رکشے والے کو رکنے کا اشارہ کیا اور گاڑی
سے اترا۔ ساتھ سارا بھی اتری۔

”اتر وہاں۔“
”بھائی صاحب! آپ رکشہ اشارت کریں۔“ اس
نے نظر انداز کر دیا دونوں کو۔
سفر رکشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔

”یہ کیا بھکانہ حرکت ہے تم لوگوں کی۔“ وہ ناچار
اتری اور سفر کے ہتھکڑی رکشے والا آگے بیٹھ گیا۔
”بیٹھو گاڑی میں۔“ سارا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ
ہاتھ ہٹا کر غصے سے گھورتی ہوئی ناچار بیٹھ گئی۔
”مجھے پتا ہے اپنے شوہر کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ
کر تمہیں صدمہ ہوا ہے۔“ سارا اس کے ساتھ
آ بیٹھی۔

”مجھے صدمہ تم لوگوں کی بکو اس سن کر ہوا ہے۔
مجھے سفر سے ایسی توقع نہ تھی کہ وہ میرے پارے میں
ایسے خیال رکھتا ہے۔ دوست سمجھتی ہوں تم لوگوں کو
میں۔ سات سال سے ہم لوگ اکٹھے ہیں کبھی ایسی
بات نہ ہوئی آج مجھے لے کر تم دونوں کے درمیان
لڑائیاں ہونے لگی ہیں۔ ڈوب کر مر جانا چاہیے مجھے
تو۔“

”چلو تینوں مل کر خودکشی کریں گے۔“ سفر ہنسا۔
اور سارا بھی وہ دونوں کو تعجب سے دیکھنے لگی۔
”یار! کوئی بڑی بات نہیں ہوئی ہاجرہ! بیوی۔ میں
ویسے ہی تمہیں آئیڈنٹلائز کرتا ہوں ویسے ہی اس

بات کر رہا تھا۔“ وہ دبے دبے لہجے میں کہتا ہوا کھڑا
ہو گیا۔

”خوب سمجھتی ہوں تمہیں اس دن کیا کہا تھا کہ
دوسری شادی کروں گا۔“
”کہنے میں کیا ہے۔ کہنے کو تو کچھ بھی کہا جاسکتا
ہے۔“

”دیکھا۔ دیکھا تم نے۔ یہ مجھے بتاتا ہے۔ طعنے
مارتا ہے تنگ کرتا ہے کہتا ہے دوسری شادی کروں
گا۔ لڑکی پسند کر لی ہے۔“ وہ رو ہانسی ہو گئی۔
”کیا چل رہا ہے یہ تم دونوں کے درمیان۔“ وہ باہر
نکل آئی تھی پارکنگ ایریا میں جہاں وہ دونوں کھڑے
تھے منہ سجائے۔

”میں نے مذاق کیا تھا یار! یہ سنجیدہ ہو رہی ہے۔“
سفر بے زار نظر آ رہا تھا۔
”کیوں کیا یہ نہیں کہا تھا کہ یہ شادی ایک غلطی
ہے۔“

”ہاں کہا تھا۔“ وہ ڈھٹائی سے کہنے لگا۔
”تو اب کہہ دو کہ یہ بھی مذاق کیا تھا۔“
”نہیں یہ مذاق ہرگز نہیں تھا۔“
”اور یہ بھی بتاؤ تاکہ تم نے کہا تھا کہ میری آئیڈیل
ہاجرہ جیسی لڑکیاں ہیں اس نے اگر شادی نہ کی ہوتی تو
میں تمہیں چھوڑ کر اسی سے شادی کرتا۔“ وہ بھری
ہوئی تھی۔

”کہا ہو گا۔“ وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگا کر کھڑا
تھالا روائی سے۔
”کیا مطلب ہے تمہارا۔ اب مجھے لے کر تم
دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی۔ سفر! تم نے یہ کہا۔“
اسے صدمہ سا ہونے لگا یہ سب سن کر۔
”کہنے میں کیا حرج ہے۔ میں تمہیں آئیڈنٹلائز کرتا
ہوں اس میں کیا برائی ہے۔“

”سفر۔“ وہ غصہ سے اسے دیکھنے لگی۔ ”بہت
دکھ ہوا ہے مجھے یہ سب سن کر۔“ وہ تیزی سے گیٹ
سے باہر نکل گئی۔ یہ بھول کر کہ دفتر میں کام شروع
ہونے والا ہے۔

سے کہتا ہوں کہ ہاجرہ کی طرح جنوں۔ رہی بات شادی کی تو وہ میں مذاق میں کہہ گیا۔
”تمہیں پتا ہے یہ مذاق کسی کو منگا پڑ سکتا ہے۔ میری رہی ہو خراب ہو سکتی ہے سارا میرے بارے میں یہ سوچ سکتی ہے کہ میں اس کے شوہر کو قابو کرنے لگی ہوں ہماری دوستی خراب ہو سکتی ہے سوالیہ نشان اٹھ سکتے ہیں مجھ پر۔“

”خیر اب یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم اپنا شوہر تو قابو نہ کر سکیں۔ میرا کیا خاک کرو گی۔“ سارا ایسے بات کر رہی تھی جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
”طنز کر رہی ہو۔“ اس کا لہجہ دکھی تھا۔
”نہیں بتا رہی ہوں کہ نگام ڈال کر رکھنی چاہیے تھی ایسے بد معاش شوہر کو۔“

”جیسے سب کچھ تم لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔“ وہ سر جھٹک کر باہر دیکھنے لگی۔

”گھر چھوڑ دو مجھے، اس سے پہلے کہ بارش ہو جائے۔“ اس نے سر باہر نکال کر ایک لمحے کو آسمان کو دیکھا جو بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ کالے بادل گھر گھر کر آرہے تھے اور دھند چھا رہی تھی۔ سفیر نے گاڑی پیوڑی، اس سڑک پر جو اس کے گھر کی طرف جاتی تھی۔

”یار ہاجرہ! یہ بستی کچھ زیادہ ہی نیچے نہیں ہے۔ بارش زیادہ ہوئی یا سیلاب کا خطرہ ہوا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔“ سارا تشویش سے دیکھنے لگی۔

”اب ایک نئی ٹینشن نہ دو، مجھے یہ احساس ولا کر۔“
”تم تو ٹینشن لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہو۔“ وہ ہنسی

تینوں گاڑی سے اتر گئے گاڑی لاک کی اور بارش سے بچتے بچاتے پھر بھی خاصے بھگ گئے گھر تک پہنچتے۔
”کون آیا ہے بھئی۔“ اماں وہیں سے پوچھنے لگیں
آوازیں سن کر۔

”ہم آئے ہیں خصوصاً“ آپ سے ملنے کے لیے۔“ سفیر اندر آکر ان کے تخت کے پاس جھکا تو انہوں نے سر تھپتھپایا۔

”جیتے رہو بیٹے! کتنے دن بعد شکل دکھائی ہے۔“
”اور میں تو بچوں سے ملنے آئی ہوں۔“ سارا کمرے سے دوڑ کر آتے بچوں سے لپٹ گئی۔
”کتنے بڑے جھوٹے ہو تم لوگ۔ ایک اماں سے ملنے آیا ہے، دوسری بچوں کے لیے سب کو بھلانا آتا ہے۔“ وہ ہنس کر بیک رکھ کر کمرے میں گھس گئی۔ اور سفیر بچوں کے ساتھ کچن میں گھس گیا۔

ہاجرہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آئی تو سفیر پکوڑے تل رہا تھا۔ نیچے اس کے ارد گرد کھڑے تھے سارا تخت پر چڑھ کر بیٹھی اماں جی سے باتیں کر رہی تھی۔ سفیر بچوں کے ساتھ ایک بڑی سی پلیٹ میں پکوڑے لے لے کر آیا تھا۔ ”لوجی سب کھاؤ موج اڑاؤ۔“

”مجھے کہہ دیتے سفیر! میں تل دیتی۔“ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کی شرٹ پر بیسن کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پکوڑے کھاتا بچوں کے ساتھ مچن میں چلا گیا بارش میں نہلنے۔ سارا بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ ان دونوں نے ہاجرہ کو آواز دی مگر وہ وہیں تخت پر بیٹھ گئی۔

”مجھے بیمار نہیں ہونا۔“ وہ وہیں سے ان لوگوں کو مستیاں کرتے دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ کتنے خوش تھے اس کے بچے، یہ دونوں جب بھی گھر آتے میلہ سالگ جاتا تھا۔

”اللہ ان کو بھی اولاد سے نوازے۔“ اس نے اماں کی بات پر آئین کہا تھا۔

رات گئے تک یہ موج مستی رہی وہ لوگ دیر تک باتیں کرتے رہے، اتنی بارش میں سفیر ان سب کو ڈنر کے لیے لے گیا تھا اور پھر تب تک بچوں کے ساتھ بیٹھا رہا جب تک بچے گہری نیند نہ سو گئے۔ وہ بچوں کو کہانی سنا تا رہا تھا۔

وہ حسرت سے سوچنے لگی کہ کاش ان بچوں کا باپ بچوں سے ایسے لاڈ کرنا۔ ان کو اتنا وقت دینا۔ کاش ان کے باپ کو یہ احساس ہوتا۔

سارا اور سفیر کے جانے کے بعد بھی وہ صبح چار بجے

کوشش کر رہی تھی وہ اگر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔
 ”درد تو نہیں ہو رہا؟“ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
 ”آپ اس کو لائیں نا۔“
 ”کس کو لائیں؟“

”اپنی بیٹی کو لائیں، میں نے اس کے ساتھ دوستی
 کرنی ہے۔“
 ”وہ نہیں آئے گی۔“

”اس لیے کہ آپ اسے لینے نہیں جاتے۔ ملنے
 نہیں جاتے ہوں گے۔ اس کا خیال نہیں رکھتے ہوں
 گے۔ اس کے لیے کھلونے لے کر نہیں جاتے ہوں
 گے۔“

”میں اس کا خیال نہیں رکھتا، نہ کھلونے لے کر
 جاتا ہوں نہ ہی ملنے۔ پر میں اسے لینے کے لیے کئی
 مرتبہ گیا تھا۔ وہ نہیں آئی۔“

”آپ کھلونے لے کر نہیں گئے ہوں گے نا۔“
 ”ہاں۔۔۔ تم پہلے ملی ہو تیں اور مشورہ دیتیں تو میں
 اس کے لیے کھلونے لے کر ضرور جاتا۔ تمہیں
 کھلونے اچھے لگتے ہیں۔ تمہارے ڈیڈی لاتے ہوں
 گے؟“

”وہ کھلونے نہیں لاتے، مگر وہ میرے لیے چاکلیٹ
 لاتے تھے۔ شانی کہتا ہے، وہ بہت برے ہیں، کیوں کہ وہ
 شانی اور فاطمہ سے محبت نہیں کرتے، نہ ان سے فون پر
 بات کرتے ہیں، نہ پیار کرتے ہیں۔ شانی تو ان کے پاس
 بھی نہیں جاتا اور فاطمہ بھی ان کو پسند نہیں کرتی، مگر بابا
 مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔“

”تمہیں کیسے پتا کہ وہ تم سے پیار کرتے ہیں حالانکہ
 وہ کھلونے بھی نہیں لاتے نہ تمہیں اپنے ساتھ لے
 جاتے ہیں۔“

”وہ بہت دور رہتے ہیں ہم سے، کہتے ہیں آنا مشکل
 ہے۔ وہ مجھ سے کہتے ہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں۔
 زینبی بابا کو بہت پیاری ہے سب سے پیاری۔“ اس
 نے ہاتھ پھیلا کر بتایا۔

”اتنی زیادہ پیاری۔“ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔
 ”آپ بھی کہتے ہیں، اپنی بیٹی سے کہ وہ پیاری ہے؟“

تک جاگتی رہی، بارش رک گئی تھی اور برآمدے کی
 چھت ٹپک رہی تھی۔ چھت پر پانی کا پھاؤ پڑا تھا،
 بوندیں نیچے فرش پر گرتیں تو آواز پیدا ہوتی۔ بوندیں
 جیسے دل پر گرتی تھیں۔



”اب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہے، چوٹ بازو میں
 آئی ہے اور ٹانگ میں بھی، مگر چل سکتی ہے۔ ہاں
 احتیاط لازمی ہے، جیسے جیسے ٹھنڈ بڑھے گی درد بڑھے گا،
 درد کے لیے یہ اسپرے لگانا لازمی ہے، تم سن رہی ہونا
 میری بات۔“

وہ عائشہ سے مخاطب تھا جو خاموشی سے لاؤنج میں
 کپڑے استری کر رہی تھی۔

”میں مانتا ہوں کہ میں نے تم سے سخت لہجے میں
 بات کی تھی، مگر تم وہ دیکھو اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔۔۔ میں
 کیا نہ دیکھتا، اس کے ہاں ہاپ کو۔“

”تمہیں پرانی بیٹی کی ٹینشن کیوں ہے آخر؟“
 ”اس لیے کہ میری بھی ایک بیٹی ہے، اگر اسے کچھ
 ہو جائے تو میرے دل پر کیا کز رہے گی، یہ میں ہی جانتا
 ہوں۔ تمہاری جب اپنی اولاد ہوگی تو تم سے پوچھوں گا
 کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔“

”تم مجھے طعنہ دے رہے ہو۔“ اس نے کپڑوں پر
 استری رکھ دی، جلنے کی بو آنے لگی۔
 ”مجھے پتا تھا، تم ایسا ہی کہو گی۔“ ابو ذر نے ساکٹ
 سے پلگ نکالا اور شرٹ کھسکا دی۔ یہ اس کی پسندیدہ
 شرٹ تھی۔

”تمہیں میں بری لگنے لگی ہوں نا۔“
 ”مجھے تمہاری باتیں بری لگنے لگی ہیں۔“ اس نے
 شرٹ اٹھا کر نیچے پھینک دی۔

”اب یہ بے کار ہو چکی ہے۔“
 ”تم مجھے بھی ایسے ہی نکال پھینکو گے کہ تم اب بے
 کار ہو چکی ہو۔“ اس کی بات پر وہ دکھ سے اس کی
 طرف دیکھنے لگا اور پھر اپنے کمرے کے ساتھ بنے
 چھونے سے کمرے کی طرف آیا جہاں زینبی سونے کی

مل لے آنے جانے کے کام سے اسے گھر آنا پڑتا۔
عائشہ نے ابوذر کو پہلی بار وہیں دیکھا تھا۔

وہ لا پروا سا اپنی دھن میں مگن کام کی بات کر کے چلا جاتا تھا۔ عائشہ کو ایک دن بتا چلا کہ ابوذر شادی شدہ ہے تو اسے گہری مایوسی ہوئی۔ وہ لاشعوری طور پر اسے سوچنے لگی تھی جس دن اسے پتا ہوا کہ اسے مل جانے والا ہے۔ وہ بہن کے گھر سے باپ کے گھر آجاتی۔ سارا دن وہاں رہتی۔ وہ بہانے بہانے سے ابوذر سے بات کرتی۔ ابوذر نے اس کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو بچھیننے کا نام دے کر ہمیشہ نظر انداز کیا تھا۔ اسے پتا نہ تھا یہ معصوم سی ضدی لڑکی خود سے کیا ضد لگائے بیٹھی ہے اور اس کے لیے کیا سوچتی رہتی ہے۔ ان دنوں وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب رہتا تھا۔ کام سے بھی کبھی کبھار دھیان ہٹ جاتا تھا۔ اس کی زندگی پھر اسے کوئی نیاز خم دینے جارہی تھی وہ خود کو بد نصیب انسان سمجھتا تھا۔ پیدا ہوا تو ماں مر گئی، باپ چھوڑ کر چلا گیا۔ پھپھی نے پالا۔ بس بے ولی سے پالا ہی تھا، پھپھی کی ڈانٹ ڈپٹ مار کا بھی وہی نشانہ بنتا تھا، لڑتے جھگڑتے اور دو سروں کی ڈانٹ کھاتے کھاتے بڑھا ہو گیا، پڑھائی میں اس کی دلچسپی کم تھی اور اس کی تعلیم پر کون خرچا کرتا، بچپن سے مزدوری کرتا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی اپنے خرچے خود اٹھالے، پھپھو کے بچے بھی اس سے بے زار رہتے تھے۔ ایک بار لڑ جھگڑ کر نکل دیا پھر اسے ماموں اپنے پاس لے آئے ماموں کی بیٹی شروع سے اسے اچھی لگتی تھی، آہستہ آہستہ اس کی پسند محبت کا روپ دھارنے لگی اور سونے پہ سہاگہ کہ ماموں نے کسی کے مشورے پر اسے اپنا گھر واپس لیا۔ پہلے صرف نکاح ہوا۔ ماموں کی شرط تھی وہ کچھ کر لے تو رخصتی کی جائے، سمیرا ابھی پڑھ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سمیرا اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، وہ اسے منہ نہیں لگاتی تھی، نہ ہی اس کے دیگر بہن بھائی ایسا کرتے، وہ کسی غیر ضروری چیز کی طرح اس گھر کے ایک کونے میں بیٹھا تھا اور کتابیں پڑھتا رہتا۔ اس نے ماموں کا کام اچھا خاصا سنبھال لیا تھا۔ ماموں

”نہیں۔ میں نہیں کہتا۔“

”اب کہیں گے۔“

”اب کہوں گا۔ پر وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی ماں اسے مجھ سے ملنے نہیں دیتی۔“

”امی کہتی ہیں اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتے۔ وہ ہمیں ملنے دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں تمہارے باپ میرے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، مگر تم لوگوں کے وہ باپ ہیں۔ تم لوگوں سے پیار کرتے ہیں، وہ بہت برے ہیں، مگر وہ ہمارے باپ تو ہیں۔“

”تمہاری تمی کتنی اچھی ہے۔“

”ان کا نام ہاجرہ ہے۔“ وہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔

”اچھا۔ اچھا نام ہے۔ کیا کرتی ہیں وہ؟“

”وہ ڈبل ڈیوٹی کرتی ہیں، سارا آٹنی کھتی ہیں، کولہو کی نیل۔“ وہ اسے اپنی ٹیمپلی کی چھوٹی سے چھوٹی بات جتانے لگی۔

وہ ہفتے کے باقی دن بہت خوش رہا اس کے ساتھ۔

اس نے سوچا تھا اب وہ اپنی بیٹی سے ایک بار بھر ملنے جائے گا۔

ایک آخری بار کوشش کرے گا، اپنی بیوی کو سمجھانے کی، وہ بے خیالی میں زینہ کو اپنی بیٹی کے نام سے پکارنے لگا تھا اور عائشہ کے اندر کاشمک یقین میں تبدیل ہونے لگا تھا، وہ عجیب وہ ہموں میں گہری سچ ہونے لگی تھی اور اسی تلخی نے ان کے بیچ ایک دیوار سی کھڑی کر دی تھی، اس نے خود ہی خود کو اس سے دور کر لیا تھا اور بہت دن بعد اس نے اپنی بہن سے بات کی، جو اسے ہمیشہ کی طرح ملامت کر رہی تھی، ان سب کے تئیں ایک ضد کی بنیاد پر عائشہ کی یہ شادی ایک غلطی ہے۔



عائشہ ایک سترہ سالہ ناچختہ ذہن کی مالک معصوم سی لڑکی تھی، اس کے باپ نے دو سیری شادی کر لی تھی۔ وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہتی تھی، جو شادی شدہ تھی۔

آجاتے وہ خود کو اس دنیا کا خوش قسمت اور سب سے بڑے پائے کا لکھاری سمجھتا، کوئی ایسا ہوتا کہ جیب میں پچیس ہزار لیے لیے کتاب چھوانے کو بے تاب پھرتا۔ پبلٹی کے لیے بے چین رہیں رائٹر شاعر کہلوانے کے شوق نے کہیں کانہ چھوڑا تھا۔

وہ کونے میں دیکھی بیٹھی ان سب کی عجیب و غریب لن ترانیاں بابا کے لقمے اور قیصر کی معنی خیز مسکراہٹ دیکھتی سستی اور سمجھنے کی کوشش کرتی اور ناکام ہی رہتی۔

بس احساسات اترتے رہتے دل میں۔

اسے اویب دنیا کی سب سے بھاری قوم لگتی اسے ٹوٹ ٹوٹ کر ترس آتا ان نکموں پر جنہوں نے گھر والوں کا جینا محمل کر رکھا تھا نہ کما کر کھلاتے نہ خود کا ہی بوجھ اٹھلاتے، نعل یاراں میں شام تمام کر کے سڑکوں کے حوالے رات کر آتے، ابا جی بگڑتے بھی تھے ان عادتوں پر اس نے کبھی اپنے باپ کو بوجہ مارا پھرتے نہیں دیکھا حالانکہ حلقہ احباب ان کا بھی اچھا خاصا تھا مگر جن جن کر معصوم اور مسکین لوگ جمع کیے تھے جو کہ اچھے خاصے شرفا بھی معلوم ہوتے تھے۔

قیصر جن لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا ان میں سے کچھ آزادی اور کیونزم کے نام پر اڑتے پھرتے نہ کوئی دین مذہب نہ عبادت نہ کوئی کام و حندہ بس اڑتے بھاگتے ٹھنڈے پھو۔ سب کچھ خود بخود ہی ہو جائے گا اور ہوتا ہے، خود اپنی ذات سے بیگانہ تھے اس نے دیکھا وہ دیر سے گھر آنے لگا۔

بابا اور تک انتظار کرتے۔ فکر مند ہو کر سوتے، عزیز بھائی کی اکلوتی اولاد بھائی بھائی جن کو ٹرک نے چل دیا اور قیصر کو ہاجرہ کے ابا نے گلے سے کیا سینے سے لگالیا۔ آنکھوں کا سرمہ بناویا۔ آنکھ کا نور تھا جینے کی آس تھا۔ اکلوتی بیٹی کی کئی خواہشوں کو پس پشت کیا، بیوی چھوڑ کر چلی گئی۔ جھگڑے بہت ہوتے تھے دونوں کے پھر خلع کا نوٹس آیا تو طلاق ہو گئی جس پر اثر پڑا وہ ہاجرہ تھی۔ لوگ ماں پر نفرین بھیج رہے تھے کہ جو ان ہوتی بچی کی ماں گھر چھوڑ کر گئی اس عمر میں ہاجرہ بس چار

نے اپنی دو بیٹیاں اور ایک بیٹیایاہ دیا تھا۔ اب سیرا ہی رہتی تھی بڑے اچھے طریقے سے اس کی بھی شادی ہو گئی نہ کوئی خرچانہ، جھنجٹ نہ مسئلہ نہ مسائل اسے اپنی من پسند ساتھی مل گئی۔ اس نے سمجھا کہ زندگی آسان ہو گئی ہے، وہ اب خوش رہے گا سارے دکھ، مسئلے، پریشائیاں ختم ہو جائیں گی، مگر بہت جلد اسے اپنے خیالات بدلنے پڑے۔



وہ کم عمری میں ہی قیصر کی محبت میں جلا تو نہ ہوئی مگر متاثر ضرور تھی۔ قیصر اس سے چار سال بڑا تھا وہ اسے بات بے بات سمجھاتا۔ رعب جھاڑتا اپنے بڑے بن کا رعب اسی پر جاتا۔ وہ اس کی صلاحیتوں کو مان گئی تھی، اسے پتا تھا وہ اسے دلیل سے یا جواز سے قائل نہیں کیا پاتی۔ جب وہ بولتا تھا تو حیران کر دیتا، مسحور کر دیتا گرفت میں لے لیتا، سحرزور ہو کر سحرزور کر جاتا، کتابیں بہت پڑھتا تھا۔ اس کا کمرہ کتابوں سے بھرا رہتا اور طرح طرح کے لکھے، پھاڑے ضائع کیے ہوئے گولہ بنے ہوئے کاغذوں سے۔ خود اس نے ساری زندگی باپ کو بھی کتابوں میں غرق دیکھا تھا۔ یہ شوق اس کی تو چڑبن گیا مگر اس کے اکلوتے بھتیجے قیصر وحید کے اندر سرایت کر گیا، اتر گیا، شریک اور قیصر جیسے سنور گیا بلکہ سنور ہی جاتا اگر کتابوں تک ہی محدود رہتا۔ وہ تو طرح طرح کی محفلوں مشاعروں میں اٹھنے بیٹھنے جانے لگا۔ اس کا رنگ ڈھنگ بدلنا گیا بڑے بڑے الفاظ بولتا اور لمبی آپیں بھرتا تو جوانی کی مستی تھی اور عشق کا بخار تھا محبت بھی سونے پر سہاگہ تھی۔

ان کے گھر پر عجیب غریب طے والے شاعر اویب آنے جانے لگے۔ جن میں کچھ تو واقعی فنکار تھے، اس نے ایک اویب کی گہری آنکھوں میں عجیب حیرتوں کا سمندر دیکھا تھا۔ پتا چلا اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تو کرسی نہیں ملتی نہ کوئی کام و حندہ بس لکھتا رہتا ہے، ادبی پرجوں نے اعزاز یہ کیا دیا تھا، پرچہ تک بھیجنا محال تھا جس کے دروازے پر چار رسالے مفت میں

دیتا۔ بس ہی ہوں ہاں کرنا رہتا تو بھی بے طرح جھڑکتا۔
اس کے ابا اپنے نواسے کی آس لیے دنیا سے چلے
گئے۔ وجہ وقت پر علان نہ ہونا بے احتیاطی بھی تھی وہ
روتی ٹوٹ کر روتی، بکھر گئی ڈھے گئی، مگر قیصر جیسے انسان
کو زیادہ فرق نہ پڑا، اس کے آنسو اس کی محبوبہ کے
عشق میں بننے کے لیے تھے اور فکر معاش فکر حال نہ
تھی، فکر فراق تھی اور جوانی پر بیت بازی پسندیدہ مشغلہ
تھا۔

وقت بے رحمی سے گزرنا گیا۔ بڑھتے بڑھتے ایک
دن حالت تشویش ناک ہوئی پڑوسن اسے ڈاکٹر کے پاس
لے گئی پتا چلا کہ خیر سے امید سے ہے عجیب کیفیت
تھی، قیصر کو تب بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ فاطمہ کی
پیدائش پر اسپتال سے وہ اکیلی آئی قیصر نے ایک اچھتی
سی نگاہ ڈال دی اور بس۔ چھو کر پیشانی تپتا رہا نہ کیا
دیکھا تک نہیں کہ کس پر گئی ہے، یہی طریقہ رہا آگے
بھی۔ فاطمہ کو پالنے کے ساتھ ساتھ ابا کی دیکھن سے
آتے پیسوں سے وہ ضرور تیں بھی پوری کرتی رہی۔
فاطمہ کے بعد شانی کی آمد نے بھی زندگی میں کوئی بل
چل نہ چالی۔

بس اتنا فرق تھا کہ کبھی جھک کر بہا کر لیتا یا دیکھ
لیتا، مگر زیادہ نہیں، وہ شکل و صورت میں ہاں پر گیا تھا۔
نقش اچھے تھے، سانولی رنگت تھی۔ فاطمہ بھی بس
خوش شکل تھی پھر زینی ہوئی، ایک کمرے میں تین
چھوٹے چھوٹے بچے۔

وہ ان کے رونے پر چلا تا چننا برا بھلا کتا۔

ان ہی دنوں یونیورسٹی میں ہاجرہ کو سفیر اور سارا مل
گئے، دونوں شرارتی نٹ کھٹ زندگی سے بھرپور بننے
مسکراتے اچھے خوش حال گھرانوں سے تعلق رکھتے
تھے۔ کوئی فکر نہ تھی بس پڑھتا تھا اور شادی کر لینی
تھی۔ اسے گھر لوٹنے کی فکر ہوتی تھی، مسائل تھے، گھر
اگر اس نے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔
بچوں کے اخراجات کا دباؤ تھا۔ سارا اس سے لڑتی کہ
قیصر کو کوآ سے احساس دلاؤ اس سے پیسے لو اس کی ذمہ
داری ہے، سفیر اسے برا بھلا کتا، وہ پہلے پہل لڑتی،

چھ دن روتی، ابا کی محبت نے سنبھال لیا، وہ باپ کو خود
بھی ٹوٹ کر چاہتی تھی، بس بیچ میں قیصر جیسا لاپروا
دیوار نہ بناتا تو ساری محرومیاں مٹ بھی جاتیں وہ قیصر
کے کمرے کی صفائی کرتی اور بعد میں کئی بار ڈانٹ بھی
کھاتی۔

”میرے رسالے کہاں رکھ دیے۔“ بکھرے کاغذ
سمیٹ کر ایک جگہ رکھنے کی صورت میں بھی شامت
آتی۔

”اب اس نظم کا دوسرا سرا کہاں ملے گا۔ اتنے
سارے کاغذات۔ کہا بھی تھا کہ مت چھیڑا کرو ان
کو۔“

وہ کاغذ تلاش کرتے ہوئے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیتا
اور کمرہ پھر کھاڑ خانہ بنا جاتا۔ کہیں واسکٹ کہیں جوتا،
صوفے کی گدیاں ادھر ادھر پڑی ہوئی۔ کرسی کے نیچے
سے تولیہ برآمد ہو رہا ہے تو شرٹ کوٹنے میں دیکھی ہے۔ وہ
ڈھونڈ ڈھانڈ کر چیزیں اکٹھی کرتی۔ سلیپے سے رکھتی۔

ان ہی دنوں اس نے شیو بڑھالی۔ سیاہ لباس زیب
تن کرنے لگا۔ رات گئے تک کھڑکی کے پاس بیٹھ کر
سگریٹ پھونکنے لگا۔ پتا چلا کسی نوجوان شاعر کے عشق
نے آلیا اور زبر کر دیا ہے۔

پھر جلد ہی شاعر کی شادی کا کارڈ آن پہنچا۔

وہ ڈھے سا گیا، مٹ سا گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، چائے
کی پیالی پر پیالی پیے جاتا بوڑھوں کی طرح کھانسنے لگا ابا
جی کو اس کی حالت نے مزید کمزور کر دیا تھا۔

کسی نے مشورہ دیا، شادی کروا دو۔ وہ کئی روز تک
اس کی ہمتیں کرتے رہے۔ وہ نہ مانا، جس دن دل کا پہلا
انٹیک ہوا۔ بال بال بچے۔

اس دن انکار کی ہمت قیصر کو نہ تھی۔ ہاجرہ اور قیصر
کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا۔ ایک بے جوڑ
رشتہ طے پایا۔ باپ کے دل کا بوجھ اتر گیا۔ بیٹی کو بہت
سمجھایا، بسلا لیا۔ وہ شروع سے قیصر کی خدمت میں گرتی تھی
اب کچھ مزید ذمہ داری آگئی کوئی فرق نہ پڑا۔ قیصر کا
رویہ پہلی رات بہت برا، پھر صرف برا آہستہ آہستہ بس
نارمل ہوتا گیا، کبھی بات کرتا کبھی بات کا جواب تک نہ

سزای روی روی سر ہستہ ہستہ لونا چو رو دیا۔ اس کا شوہر اسی لائق تھا۔

ہاجرہ پہلے پہل قیصر سے لڑتی احتجاج کرتی پھر جب دیکھا کہ آگے اثر نہیں ہوتا پہلے جو وہ چپ چاپ سن لیتا یا کبھی کبھار جھڑکنے لگتا تھا اب مارنے مرنے پر تلا ہوا تھا۔

وہ اپنی عزت بچا کر امان مانگتی تھی۔

بچوں کا باپ کئی دنوں میں آتا، کبھی بچوں سے بات چیت کر لیتا زہنی خود ہی چمتی تھی، ٹانگوں کو پکڑ لیتی ہاتھ تھام لیتی، ارد گرد گھومتی، چیزوں کی سی بولیاں بولتی تھی۔ ارد گرد منڈلاتی رہتی، کبھی بھی بہت پیاری، خوب گوری چٹی سفید رنگت اور نقش میں باپ پر گئی تھی، اسے بس اس سے ہی انیسیت تھی وہ اٹھا لیتا یا چوم لیتا، جس دن جانا ہوتا وہ زہنی سے پھپھ کر جاتا۔ دکھتا سوتی ہوئی ہے تو ہی جاتا، رنہ وہ ہماری صورت میں اسے پتا تھا اس نے رو رو کر آسمان سے پتہ لگایا تھا۔

البتہ یہ پروانہ تھی کہ اس کے ہاتھ کے بعد وہ کیسے بدلتی چلائی ہے، چیرس پھینکتی ہے، لالہ کی بالاجبتی ہے۔ ننھے ننھے گالوں پر مونے منہ لگے ہوئے ہیں اور ہاجرہ دل تھام کر بیٹھ جاتی ہے۔ کبھی کبھار خود بھی رونے لگتی ہے تو کبھی اسے ایک تھپتھار کر پھر کلبجے سے لگاتی ہے تڑپتی اس لیے ہے کہ وہ ماں ہے۔

مگر یہ باپ کیسا باپ ہے، اس شخص کا شوہروں کے بہت برے قبیلے سے تو تعلق تھا ہی مگر وہ باپ بھی بہت برا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دکھ کا باعث بنتا ہے۔ وہ باپ گھلانے کے قائل نہیں ہے، کوئی اسے جا کرتا ہے تو۔



سیرا پہلے پہل صرف ہیزاری کا شکار تھی، پھر باقاعدہ چڑنے لگی۔ اس کی چیزیں کمرے سے اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔

شاہی کو ابھی ایک ماہ ہی ہوا تھا اور یہ ایک سال کی طرح گزرا تھا۔

اس کے سوچا وہ اس کی ہیزاری سے روک دیتا ہے۔ کمرے گا۔ وہ آیا تو کمرے کے باہر کئی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ شیو کا سلان، پرانے جوتے جن کے ٹکڑے اکھڑنے کو تھے۔ پھٹی ہوئی جیکٹ کی جیب جس کو اندر اڑس اڑس کر وہ چھپا لیا کرتا تھا بوسیدہ کوٹ، سستے سے کپڑے کی چند قمیصیں لنڈے کی خریدی ہوئی، جینز اور ٹی شرٹ۔

ٹوٹی ہوئی زپ والا بیگ، سب کچھ باہر تھا، اس نے سب چیزیں سمیٹیں، یکجا کیں، جمع کیں۔ تھیلے میں ڈالیں اور کھلی لے کر اندر آ گیا۔

”تم اس کاٹھ کباڑ کو پھر سے اٹھالائے ہو۔“ وہ اسے آنا دیکھ کر چیختی۔

”میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب چیزیں پھیلا کر نہیں جاؤں گا۔ استعمال کے بعد اسی بیگ میں رکھ کر جاؤں گا۔“

”کوئی ضرورت نہیں، انہیں نکالو یہاں سے مجھے اپنے کمرے میں اتنا زیادہ کباڑ بھرنے کی کوئی خواہش نہیں۔“

وہ کہنا چاہتا تھا یہ میری چیزیں ہیں، کیا میں تمہارے لیے بے کار ہوں تو پھر مجھے بھی کمرے سے نکل پھینکو اور اسے پتا تھا وہ کہہ دے گی کہ تم بھی نکل جاؤ، اتنے عرصے میں وہ اس کے دل میں پلنے والی نفرت کو تو جان ہی گیا تھا۔

اسے اس لڑکی پر رحم بھی آیا، لڑکی جتنی بڑھی لکھی ہو۔ ماں باپ جس قدر آزاد خیال ہوں، مگر لڑکی کو پسند کی شاہی کا اقتدار ہرگز نہیں دیتے۔ اس کا غصہ، چڑچڑاپن، نفرت گریز، جھجک بے معنی نہ تھی اور اسے حق تھا اس کی بہنوں کی اچھی جگہ شاہیاں ہوئی تھیں، ان کے شوہروں کا شمار اچھے کاروباری لوگوں میں ہوتا تھا۔ وہ اچھی شکلوں والے اچھے پیسے والے، اچھی گاڑیوں میں بن گھن کر آتے تو کسی ریاست کے شہزادے لگتے تھے اور ایک اچھی شکل والا صرف پیسہ گاڑی، ہنگامہ نہ ہونے کی صورت میں کونے میں دہکا بیٹھا سگریٹ پیتا رہتا تھا۔

فون کیا جس کی بیوی نے اسے دس باتیں اور خوب سنائیں۔ ان سب کا خیال تھا کہ وہ ماں کے بہانے خود پیسے ہڑپ کر جائے گی، یا پھر اس بڑھی کو کو اپنا انتظام خود کرنے کے لئے بہو کے گئے لفظ ماں نے بھی سنے۔

حمید بھی ساتھ تھا پر کچھ نہ کہانہ بیوی کو ٹوکا بلکہ کہہ دیا ”اماں کو بول دیں روز روز پیسے کہاں سے لاؤں گا“ میرا اپنا گھر ہے سو خرچے ہیں۔ اب بچہ بھی ہے کہاں سے پیسے بچاؤں میں جوان کو بھیجوں بیٹی پر ناز تھا تو بیٹی نہیں بیٹی کے گھر۔ بیٹی کیا دوائیں بھی نہیں دلا سکتی ماں کو۔“ یہ اس ماں کا بیٹا تھا۔

ہاجرہ فون پکڑ کر ساکت رہ گئی ماں کو پہلی بار احساس ہوا کہ بیٹے مانگتے ہوئے بیٹیوں کو نظر انداز کرتے وقت بیٹی کے دل کی نرمی، محبت سچائی اور وفاداری کا اور اک پہلے کیوں نہ تھا۔

بیٹے کے لیے روتی ماں کو ہاجرہ نے گلے سے لگایا اور بچوں کی طرح پیار کیا۔ نسلی دی، سمجھا دیا، اس کے بعد ہاجرہ نے ماں کی ذمہ داری ایسے اٹھالی جیسے تین بچوں کی ذمہ داری اس کے سر پر تھی، سارا کی اخبار میں جا ب ہو گئی۔ اس نے وہیں اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور ایک دن اسے دفتر بلوایا، پہلا مہینہ ٹیسٹ پر رکھا گیا۔ وہ ذہین تھی، محنتی تھی۔ خوب اچھا کام کیا۔ وہ اسکول اور اخبار کے دفتر سے ملی تنخواہ سے گھر چلا رہی تھی۔ بچوں کی تعلیم پر خرچا ہو رہا تھا۔ ماں کا علاج ہو رہا تھا۔ کبھی ایک دو ہزار بیچ جاتے اور کبھی سارے بچے ہوئے بھی خرچ ہو جاتے۔

مشکل وقت کو اچھے وقت کی امید پر ٹالتی رہی۔ بچوں کو بہلاتی پھسلاتی رہی۔ ساری باتیں ایک طرف۔ اس لاپرواہ آوارہ شخص کے دیے گئے زخم ایک طرف جو اس کے بچوں کے دلوں پر اثر ڈالتے تھے۔

کئی دنوں سے زینبی الارم لگا کر سو رہی تھی۔ اسے پتا تھا وہ رات گئے اٹھتی ہے۔ پھر سو جاتی ہے۔ وہ فون ملاتی ہے وہاں سے ریسپو نہیں ہوتا یا نرسو بند ملتا ہے۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہے ہوتے جاتے

اس نے سوچا وہ بھی کلمے کا پیسہ بنائے گا تو سمیرا اس کے ساتھ سیٹ ہو ہی جائے گی۔
سمیرا کا رویہ کبھی نارمل ہو جاتا، کبھی اسے چڑچڑے پن کے دورے پڑتے اور وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتی جاتی۔

وہ چپ چاپ تماشائی بنا کونے سنتا اس کے یا پھر کمرے سے نکل جاتا۔ اس رات باہر سو جانا گھر نہ آتا پھر غصہ دیتا تو آ جانا، سمیرا کے ماں باپ بھی یہ سب محسوس کر رہے تھے اس کی ماں کا رویہ بھی ابو ذر سے اتنا ہی تلخ تھا۔

احسان صاحب کے چہرے پر ہر وقت تفکر چھایا رہتا۔ بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کا احساس اندر ہی اندر بے چین کیے رکھتا بس کسی کو اس نوجوان مسکین صورت والے ابو ذر پر رحم نہ آتا تھا، فکر نہ ہوتی تھی، اس کا اپنا کون تھا جو پریشان ہوتا، اس دنیا میں باقی سارے رشتے ایک طرف ماں اور باپ ایک طرف، اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ کس کے آمرے پر احتجاج کرتا، اختلاف کرتا، اعتراض کرتا، سارا کچھ ایک طرف اس کی بے بسی ایک طرف۔



ہاجرہ کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ ایک بیٹا ہوا جو ہاجرہ سے تو کئی سال چھوٹا تھا، ہاجرہ کی ماں جب اس سے فون پر بات کرتے ہوئے حمید کے قصے شرارتیں باتیں بتاتی تو اس کا دل چاہتا دوڑ کر وہاں پہنچ جائے، اس کا کوئی بھائی نہ تھا۔ حمید کو بھائی تصور کر کے اس کا دل نرم ہو جایا کرتا تھا، تب ہی اس کی ماں اس کے پاس لوٹ کر آتی جب وہ خود ایک ماں بھی اس کے تین بچے تھے جن کے لیے وہ دن رات محنت کرتی تھی، ایک کے بعد ایک کام، پھر اسکول میں جا ب مل گئی۔ سیکری بس زیادہ اچھی نہ تھی اتنی کہ گھر کا راشن آجاتا اور دو وقت کی روٹی میسر ہو جاتی۔

ماں کے آنے کے بعد خرچہ دوہرا ہو گیا۔ اس کا علاج اس کی دوائیں، اس نے ایک دو بار حمید کے گھر

ہے تمہارا۔“

اس کا تھیلا باہر پھینکا، زینتی کو اس سے الگ کیا۔
 ”نکلو یہاں سے ابھی اور اسی وقت۔ تمہاری اس
 گھر میں اب کوئی جگہ نہیں۔“ دھکا دے کر باہر کیا۔
 ”جارہا ہوں، جارہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے
 آنے کا۔ دس دس دفعہ فون کرتے ہیں۔ تب ان سے
 ملنے آتا ہوں۔ تمہاری شکل دیکھنے کا شوق نہیں ہے
 مجھے۔“

بکنا جھٹکا دروازے سے بیگ اٹھا کر چلا گیا۔
 بچے رونے لگے، بچوں کی ماں نے تینوں بچوں کو
 ساتھ لگا لیا۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔
 بچوں کی مٹنی نے آج اپنی۔ بیٹی میں ایک ماں
 دیکھی۔
 ایسی ماں جو کبھی ہاجرہ کی ماں میں نہ جاگ سکی۔

پرنسپل نے کمرے میں بلا کر خوب برا بھلا کہا تھا اور
 نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ ایک اور امتحان آگیا، وہ
 چپ چاپ چلی آئی۔ وہ نوکری ڈھونڈنے لگی، صبح
 سوپے نکل جاتی پھر شام کو اخبار چلی جاتی وہاں بھی
 اس کی سیلری نہیں بڑھائی جا رہی تھی۔ بمشکل اس بار
 سترہ ہزار ہوئے، بل جمع کروانے کے بعد کئی چیزیں
 راشن سے نکالنے کے بعد بھی راشن۔ پورا نہ ہوسکا،
 اماں کی آدھی دو آدھیں لیں، آدھی رہ گئیں۔ ابھی بچوں
 کے اسکول کی فیس باقی تھی۔

”کیا ہوا ہاجرہ! کچھ بنا؟“ اماں پریشان تھیں۔
 ”کچھ نہیں ہوا اماں۔“ چہرے سے ٹھکن ظاہر تھی،
 اور لہجے سے بیزاری۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔
 شانی ایک کپ چائے بنا لایا۔

”کیا ضرورت تھی پتی چینی ضائع کرنے کی۔“ لہجہ
 عجیب سا تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ اور پھر دل ہی دل
 میں خود کو کوستے ہوئے چائے کا کپ تھام لیا، شام کو پھر
 بارش ہوئی چھت ٹپکنے لگی، ایک کمرے کی دیوار بھی
 ٹپکی سی ہو گئی، اس نے سب کو ایک ہی کمرے میں

ہیں۔ پھیل جاتے ہیں۔

وہ اپنی زینتی کو کھینچے سے لگا کر ڈھیر سا راپ پار کرتی اور
 دعا کرتی کاش اس کے پیار اس کی محبت سے وہ کمی پوری
 ہو جائے، جس کی بچوں کو باپ سے توقع ہے۔

مگر ایک دن معاملہ صاف ہو ہی گیا۔ قیصر آیا تھا،
 بہت خوش گوار تاثر چہرے پر سجا تھا۔ نیا نیا دولہا۔ بچوں
 کو پکڑ کر بیٹھ گیا میں تمہیں تمہاری نئی می کی تصویر
 دکھاؤں۔“

سیل فون کھول کر بیٹھ گیا۔
 ہاجرہ کے ہاتھ سے برتن گرتے گرتے بچا، شانی کا
 چہرہ بچھ گیا، فاطمہ پاس سے اٹھ گئی۔
 زینتی حواس باختہ تصویریں دیکھتی رہی۔ منہ کھلے کا
 کھلا رہ گیا۔ باپ کے پاس سے اٹھنا اس کے لیے
 مشکل تھا۔ وہ زینتی کو ساتھ لگائے بیٹھا بتا رہا تھا۔
 ”یہ وہی آئی ہیں جو آپ کے ساتھ آؤں کریم
 کھا رہی تھیں؟“

زینتی کی انگلی اس تصویر پر رک گئی، ”موصوم آنکھوں
 میں اور بھی سوال تھے، فاطمہ کونے میں منہ چھپا کر
 رونے لگی۔ شانی کی آنکھیں بھر آئیں۔
 ہاجرہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کمرے میں گئی، اس کی
 ساری چیزیں اکٹھی کیں ایک بیگ میں بھریں اور باہر
 آکر منہ پر دے ماریں۔“

”آج کے بعد میرے بچوں کی زندگی میں زہر
 گھولنے مت آنا۔ نکل جاؤ اور رہو اپنی نئی بیوی کے
 ساتھ۔ میرے بچوں پر تمہارا اور تمہاری گندی فطرت
 کا سہلہ بھی نہ پڑے۔“ وہ پہلی بار چیختی تھی۔ آنکھوں
 میں پانی بھرا تھا اس کا چہرہ دھندلا تھا وہ خیابثت سے ہنسا
 تھا۔

”اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے۔ لے کر رہوں گا۔
 تم مجھے ایسے نہیں نکال سکتیں، میرے بچوں کو مجھ
 سے۔“

”بکو اس بند کرو۔ تمہارے بچے کوئی تعلق نہیں

آج اسے بھی گولی کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ نیند کی گولی کی۔



سمیرا کو ڈاکٹر نے خوش خبری دی تھی۔ وہ پھولے نہیں سارا ہوا تھا۔ ماموں بھی بہت خوش تھے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ بہت کوشش کی ختم کروانے کی مگر کوئی بہن اس کے اس کام میں شامل نہ ہوئی۔ جیسے تیسے تکلیف میں یہ مینے تمام ہوئے۔ ننھی پری کی پیدائش پر کون خوش نہیں تھا۔ ایک اس کی ماں تھی جو نڈھال سی بیٹھی تھی پھکی مسکراہٹ تک ہونٹوں پر نہ تھی۔ مگر کیا کرے۔ آخر ماں تھی بچی کے رونے پر تڑپ جاتی تھی۔ ابو ذر سے اس کا رویہ آخری حد تک خراب ہو گیا۔ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے یہاں نکلنے نہیں دینا۔ ایک دن اس نے ابو ذر کو دھمکی دی کہ ”وہ خود کشی کر لے گی۔ اگر اس نے نہ چھوڑا تو“ اس نے بہت سمجھایا کہ اب ہم دونوں ایک بچی کے ماں باپ بن گئے ہیں۔ کم از کم اس کے لیے کچھ سونپو۔ مگر وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔

دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ وہ تھک مار کر اسے طلاق کا نوٹس دے کر نکل آیا۔ چند ماہ کی بچی کی طرف دل کھینچتا تھا مگر کیسے دیکھتا۔ کیسے ریتا وہاں۔ اب کوئی جواز نہ تھا۔

تب ہی اسے عائشہ کے والد ملے جنہوں نے اسے اپنے کام میں شامل کر لیا اور آہستہ آہستہ اتنا اعتماد آگیا کہ اسے گھر کے کاموں میں بھی شامل کر لیا تھا۔ وہ ایک دو بار بچی سے ملنے گیا مگر نامراد لوٹا۔

اسے عائشہ کی محرومیوں میں اپنی محرومیاں نظر آتی تھیں۔ عائشہ کی منتگنی ہو رہی تھی اور ہو بھی گئی۔ لڑکا اچھا تھا۔ اس کا ہم عمر۔ اس جیسا نٹ کھٹ خوب صورت بڑھا لکھا۔ مگر عائشہ خوش نہ تھی۔ وہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھا رہی تھی ڈھنگ سے۔ اسے عائشہ میں سمیرا نظر آنے لگی تھی۔

مستقل کر دیا۔ بچے رات تک سو گئے۔ بجلی چلی گئی تھی وہ لیٹی ہوئی تھی پتا تھا ماں بھی اس کی طرح پرانے ٹیرز گاڑ ڈالنے بوسیدہ چھت کو آسمان سمجھ کر گھور رہی ہیں۔

”اماں۔“ آواز جیسے کسی گھرے کنویں سے آرہی تھی۔

اماں سیدھی ہو گئیں۔ ”بول۔“

”اماں۔ آپ حمید کے پاس چلی جائیں۔“

وہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگیں جو ابھی تک چھت کو دیکھ رہی تھی۔ تو چاہتی ہے میں وہاں مروں جہاں کوئی میرے پاس دو منٹ بیٹھ کر بات تک نہیں کرتا۔ جانوروں کی طرح کو ننھی میں ڈال کر روٹی دے جاتے ہیں۔ ایسے پھینک کر جیسے جانوروں کے آگے چارہ ڈالا جاتا ہے۔“

”اماں۔“ اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔

”یہاں آپ کو کیا ملتا ہے اماں! بمشکل دوایاں۔“

پھل تک نہیں لاسکتی میں آپ کے لیے اور اب دوائی بھی۔ آج آپ کی گولیاں نہیں لائی میں۔ جو بہت ضروری تھیں۔ جن کے بغیر آپ کو نیند بھی نہیں آتی۔“

”ہاجرہ۔ میں تیرے پاس مرنا چاہتی ہوں۔“ آواز کس قدر نحیف تھی۔

”اماں! اس طرح کی باتیں کر کے آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔“ شکوہ دور آیا۔

”ہاجرہ۔ میں چاہتی ہوں مجھے یہاں موت آئے۔“

”ہاجرہ! میں سب سے پہلے یہاں بیاہ کر آئی تھی۔“

بہیں تو پیدا ہوئی۔ بڑی ہوئی۔ تیری شادی ہوئی۔ بچے ہوئے۔ اس گھر نے پھر سے مجھے پناہ دی۔ یہ گھر بہت بڑی جگہ رکھتا ہے۔ کہنے کو چھوٹا ہے۔ مجھے دوبارہ نہ

کہنا کہ حمید کے پاس چلی جا۔ میں یہاں خوش ہوں

ہاجرہ! ہر حال میں خوش ہوں۔ میں کوشش کرتی ہوں

سونے کی۔ نیند آجائے گی۔ گولی کی فکر نہ کر۔“

”کس چیز کی فکر کروں اور کس چیز کی نہ کروں۔“

تھا مگر اس نے اکیلے رہ کر اس کا انتظار کرنا سیکھ لیا۔ وہ چھوٹے سے محل کی رانی بن گئی اور اسے چھوٹے سے محل کا راجہ بنا دیا۔

دور پہاڑوں میں لکڑی کے محل میں راجہ رانی نے زندگی کی بنیاد رکھی تھی۔ زندگی پہاڑوں میں رخص کرتی تھی۔

ابوذر کو اب زندگی زندگی لگتی تھی، وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد سمجھنے لگا تھا جسے ایک کم عمر، خوب صورت لڑکی چاہتی تھی۔ اتنا کہ اس کی پسند کا کھانا بنتا، اس کی پسند کی چیزیں رکھی جاتیں اس گھر میں، اس کی رانی نے اس کے لیے زندگی آسان بلکہ خوش گوار کر دی تھی، یہ بھی نئی شروعات اس کی زندگی کی تھی۔

بارش بہت زیادہ برس رہی تھی وہ بمشکل دفتر سے گھر پہنچی، بچے پریشان تھے۔ رات بھر اس سے لپٹے رہے۔

”کیا واقعی اس بار سیلاب آئے گا۔“ فاطمہ ڈری سہمی اس سے چٹ کر لیٹی ہوئی تھی۔

”نہیں آئے گا۔“ وہ اسے ساتھ لگائے ہوئے اس بوسیدہ چھت کو دیکھ رہی تھی۔

اماں سوچکی تھیں۔ زینبی ان کے ساتھ سوئی تھی۔ وہ فاطمہ اور شانی جاگ رہے تھے۔

”میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔“ شانی نے سر اٹھا کر کہا تھا۔

وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ”کیا کہا پھر سے کہنا۔“

”اب اسکول نہیں جاؤں گا۔“ وہ ضدی بچے کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے کھینچ کر ایک ٹھنڈا لگایا۔ وہ ساکت کھڑا رہا۔ زندگی میں پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا۔

”بولو۔ کیا بولتے ہو۔“ وہ چیخی، عجیب دشت سے۔ فاطمہ کا دل دہل گیا، اماں نیند سے بیدار ہو گئیں۔ ”کیا ہوا ہاجرہ! خیریت ہے نا۔“

وہ اس کے ماں باپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ زبردستی نہ کریں۔ مگر اس سے پہلے عائشہ نے حد کر دی۔

شور مچا دیا کہ شادی کرنی ہے تو ابوذر کے ساتھ۔ گھر میں بہت ہنگامہ ہوا۔ ابوذر کام چھوڑ کر چلا گیا۔

دوسری جگہ کام ڈھونڈنے لگا۔ خوش قسمتی سے اختر مل گیا۔ اسکول میں ساتھ پڑھا ہوا تھا۔ اس نے سفارش کی۔ بات کی۔ کمپنی میں جگہ بھی خالی تھی۔ کمپنی کو ایک محنت کش نوجوان ملا اور

نوجوان کو اپنا روزگار۔ کئی سالوں بعد وہ چین کی نیند سویا تھا۔ اسے اب پتا چلا کہ چین کی نیند کیا ہوتی ہے۔

ایک سال بعد عائشہ کے باپ نے ابوذر کو ڈھونڈا تھا۔ اور عائشہ سے نکاح پڑھوا دیا۔ ابوذر نے خاصی حیرانی سے اپنے نکاح میں شرکت کی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے لڑکیوں کی طرح ہاتھ بھی کانپے تھے۔

اب اسے عائشہ کے باپ نے ایک ٹاسک دیا کہ وہ کہیں بھی، کسی بھی جگہ اپنا گھر بنا لے اور اسے رخصت کرا کے لے جائے، ٹیمپ سے نکل کر گھر بنانے کا مرحلہ سخت تھا۔

وہ پہاڑ کی چھوٹی سی چوٹی جہاں پر ان کا ٹیمپ کئی مہینوں تک لگا رہا تھا۔ اسے وہ چوٹی اور اس کے نیچے بہتی ہوئی نہر کتنی اچھی لگتی تھی۔ چوٹی پر قبضہ کرنے کی صورت میں کوئی اس سے پوچھ کچھ کرنے والا نہ تھا۔

اللہ کی زمین اس کے بندوں کے لیے چھپی جاتی تھی۔ اس نے بسم اللہ کی دوست کی مدد سے قرضہ لیا، دو کمروں کا مکان بنانے میں کامیاب ہوا جس میں آدھا کام لکڑی کا تھا۔

شہر کے شور سے دور پہاڑوں کی گود میں ابوذر کا چھوٹا سا محل تیار تھا۔ وہ عائشہ کو چند لوگوں کی موجودگی میں رخصت کرا کے لے آیا۔

وہ خوش تھی حالانکہ اسے اس علاقے سے ڈر لگتا

اس کا دل ٹوٹ گیا۔ آنکھیں بھر آئیں۔
 ”آئندہ ایسے نہ کہتا میری جان! تمہاری ماں زندہ
 ہے ابھی۔ کما سکتی ہے۔ تم کیوں ایسا سوچنے لگے ہو۔“
 اور وہ ماں کے سینے سے لگ کر یہ سوچتا رہا کہ جو بچے
 ریڑھی لگاتے ہیں، پھول بیچتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں،
 ان کی ماںیں یہ کیوں نہیں سوچتیں۔ ہر ماں اس کی ماں
 جیسی کیوں نہیں ہے اور ماں بیٹے کو ساتھ لگائے یہ
 سوچ رہی تھی کہ سب بچے ایسے ہونے چاہئیں جیسے کہ
 میرا شانی ہے۔



بارش سے جگہ جگہ پانی جمع ہو رہا تھا، ایک طرف
 رستہ اوپری سطح پر تھا جہاں سے بچے اسکول اور بڑے
 اپنی اپنی مصروفیات کو نکل رہے تھے۔
 ہاجرہ نے برآمدے سے پانی نکالتے ہوئے کھڑکی
 سے جھانکا۔ سامنے شانی کھڑا تھا اور رستے سے کچھ
 لڑکے جو پانی ہٹا رہے تھے، وہ ان کے ساتھ مل کر سڑک
 صاف کر رہا تھا تاکہ لوگ با آسانی گزر سکیں۔ اس کے
 ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اور وہ صفائی کر کے جیسے ہلکی
 پھلکی ہو گئی۔

آج سارا بھی آئی تھی اور اس کے لاکھ منع کرنے
 کے باوجود اس کے زیور اور اچھے کپڑے اپنے ساتھ
 رکھنے کے لیے لے گئی۔ اسے بچتے یقین تھا کہ دریاے
 سندھ میں آنے والا پانی کاسیلانی ریلایاں بھی اپنے
 چھینٹے اڑائے گا۔ اس نے ہاجرہ کی بہت منتیں کیں کہ
 وہ بچوں کو لے کر اس کے گھر شفٹ ہو جائے مگر اس
 نے ایک نہ مانی۔ وہ چیزیں لے کر چلی گئی۔
 ایک دو دن گزر گئے، بارش میں تیزی آرہی تھی اور
 سیلابی ریلانزدیک تھا۔

خوف اور وحشت نے ہر جگہ ڈراڈالا ہوا تھا۔ لوگ
 نقل مکانی کر رہے تھے جو نہیں جاسکتے تھے وہ حفاظتی
 بچاؤ کرنے لگے۔

اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اتنی کہ
 کہیں لے جانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔

”لہتا ہے اسکول نہیں جاؤں گا۔“
 ”تو تم نے اسے مارا ہے کیا۔“ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ
 گئیں۔ روتے ہوئے شانی کی ہچکی بندھ گئی۔ ساتھ
 لگا لیا تلی نے۔
 ”آئندہ اگر یہ کہا کہ اسکول نہیں جاؤں گا تو بتاؤں
 گی اچھی طرح آوارہ پھرنا اپنے باپ کی طرح۔ اسکول
 نہیں جاؤں گا۔“
 ”اس وقت بچوں پر برس رہی ہو۔ پاگل ہو گئی ہو۔
 ارے استغفار پڑھو کیسی ہچکی چک رہی ہے۔“ وہ دیر
 تک بیڑا تکی رہیں پھر شانی کو ساتھ لگائے ہوئے
 سو گئیں۔

صبح قریب تھی کہ اس نے شانی کو جاگتے ہوئے پایا
 دل بھر آیا۔ اسے اپنے پاس بازو پر لٹایا۔
 ”تمہیں پتا ہے بیٹا! میرے پاس کچھ نہیں سوائے
 تم لوگوں کے۔ بہت خواب دیکھ رکھے ہیں تمہارے
 حوالے سے۔ تم نہیں بڑھو گے تو میرے خواب کون
 پورا کرے گا۔ نوکری مل جائے گی۔ برا وقت گزر
 جائے گا۔ وقت رکتا نہیں اور برے وقت کے بعد اچھا
 وقت بھی آئے گا۔“

”ہم پیسے کہاں سے لائیں گے می۔ اگر نوکری
 لیٹ ملی۔ پیسے ختم ہو گئے۔ تلی کی دوا نہیں ہے۔
 جھت ٹوٹ رہی ہے۔“

”میں زیور بیچ دوں گی۔ میرا زیور تم ہو۔“
 ”میں آپ کو زیور بیچنے نہیں دوں گا می!“ وہ اٹھ کر
 بیٹھ گیا۔

”تو پھر صبر کرو۔ اچھے وقت کا انتظار۔“
 دیکھو تم میرے بیٹے ہو۔ میرے دوست، میرے
 ساتھی۔ تمہیں میرے ساتھ مل کر حالات بہتر بنانے
 ہیں۔ اس کے لیے مجھے کام کرنا ہے اور تمہیں پڑھنا
 ہے۔“

”میں پڑھنے کے ساتھ کام بھی تو کر سکتا ہوں نا
 می۔“

”کیا کام؟“

”میں ریڑھی لگاؤں گا۔“

آگے کیا۔ جہاں سے پانی کم تھا اور نکلنا شاید کچھ آسان۔ وہ افراد نے مل کر اسے اور پانی کو اٹھایا۔ گاڑی میں ڈالا ان کے سر پر اینٹ گری تھی بہت خون بہہ رہا تھا۔

وہ جیسے بے ہوشی کے قریب تھا۔ زینبی اور فاطمہ کو آواز دینا چاہتا تھا مگر حلق میں کچھ پھنسا ہوا تھا جیسے اس کا سر کسی کے کندھے پر ڈھلک گیا تھا۔ آنکھیں دھندلائی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا تھا۔



اس کی آنکھ کھلی تو اماں اس کے قریب تھی۔ بازوؤں پر چوٹ کے نشان تھے۔ وہ بمشکل آگے آسکی تھی جہاں سے اسے ماں کی نعش ملی تھی بمشکل اٹھا کر ان کو قریبی علاقے میں اس کے بڑوسیوں نے دفن کیا تھا۔ ان کے کسی گروپ میں فاطمہ بھی زندہ سلامت مل گئی تھی۔ چونکہ تو اسے بھی بہت آئی تھیں مگر چومیں تو بھر جاتی ہیں۔ زینبی کا کچھ اتا پتہ تھا۔ رو رو کر بچوں کا برا حال ہو گیا تھا، ثانی کی موت اور زینبی کی جدائی۔

بس ایک ہی سوال تھا۔ کیا زینبی بچ گئی ہوگی۔

کیا وہ ہمیں ملے گی۔

سارا اور سفیر پہنچ گئے تھے گھر لے گئے اسے۔ کچھ دن تک وہ وہیں رہی پھر ایک جگہ کم کرائے پر مکان مل گیا۔

سارا اور سفیر مل کر اپنا کوئی کاروبار شروع کر رہے تھے۔ سارا سڑکوں پر دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی جیسے اسے سیلاب کی نشریات، حادثوں نے جیسے اس کے اندر کی توانائی چھین لی تھی۔

سفیر تو ویسے بھی اس کی وجہ سے ہی پڑا تھا۔ وہ ہاجرہ کو اپنے ساتھ نئے کاروبار میں ملتا رہے تھے۔ زندگی معمول پر لوٹنے لگی تھی مگر اس کی زینبی۔ جس کے ملنے کی اس کبھی دم توڑتی تو کبھی امید کی کرن روشن کرتی۔

وہ بچوں کو ماں کے پاس چھوڑ کر دو لینے کے لیے نکل گئی۔ راستے خراب تھے۔ آدھے گھنٹے کا سفر ڈیڑھ گھنٹے میں طے ہوا۔ سیلابی ریلا اس علاقے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔

ہاجرہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کا بھی اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے پانی رخ موڑ لے اور نہ آئے۔ نیچے بہ جائے کیونکہ ایک بار وہ بچ بھی چکے تھے۔ اس نے دوالی سواری ملنا مشکل ہو رہی تھی۔ وہ کافی پیدل چلی پھر رکھ طا۔ آدھے رستے پر چھوڑ کر گیا آگے پانی ہی پانی تھا۔

اس کا دل دہل گیا، دھڑکن جیسے رک گئی، گھر پر کال کر بیسی۔ مگر فون بھی گھر چھوڑ آئی تھی۔ سیلابی ریلا اس کے علاقے میں گھس گیا تھا۔ یہ علاقہ دریا سے قریب تھا۔

اس کی آنکھیں ایسے بہ رہی تھیں جیسے زمین کی سطح پر پانی پھیل کر بہ رہا تھا۔

آگے رستہ بند تھا۔ اس کے ہاتھ میں دو اسٹیں اور کھانے پینے کی اشیاء کا تھیلا تھا جو اس نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔

اسے صرف گھر کی پروا تھی اور گھروالوں کی۔

اماں مثالی فاطمہ زینبی۔

دل رک گیا جیسے۔ وہ اندھا دھند آگے بھاگی۔ آگے کوئی گڑھا تھا جس میں گر گئی۔ اٹھنا اور بچنا محال تھا جیسے۔



گھر کی چھت گر گئی تھی، پانی تھیں آیا تھا، کون گرا، کون بچا۔ اوسان خطا تھے۔ چیخیں تھیں۔

شالی کے ہاتھ میں تلی کا بازو تھا، وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھیں۔ شالی کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ وہ انہیں کھینچنے میں کامیاب ہو گیا، مگر تب تک وہ دم توڑ چکی تھیں۔ وہ چیخ چیخ کر بھاگتے۔ نکلتے لوگوں کو متوجہ کرنے لگا تھا۔

کوئی اس طرف آیا تھا۔ ان دونوں کو گھسیٹ کر

”کیسی ہو بیٹا؟“ وہ خود آگے بڑھا۔ اسے پیار کیا۔
 ”کیا یہ سچ ہے۔ زینی واقعی گم ہو گئی ہے؟“ کمرے کے
 اطراف میں دیکھتے ہوئے جیسے یقین کرنا چاہا۔
 فاطمہ نے اثبات میں سر ہلایا تھا، اس کی آنکھوں
 میں نمی تھی۔

”تم ٹھیک ہونا۔“ اس نے پہلی بار فاطمہ کی اواس
 آنکھوں میں دیکھا تھا بغور۔ اس کی آنکھیں گہری
 براؤن تھیں جن میں دکھ اور ڈر ہلکورے لے رہا تھا۔

اس نے فاطمہ کو ساتھ لگالیا۔ ”ہم اسے ڈھونڈ لیں
 گے۔ وہ مل جائے گی۔ زینی ہمیں مل جائے گی۔“ وہ
 زندگی میں پہلی بار فکر مند ہو رہا تھا۔

”شانی۔ ادھر آؤ۔ میرے پاس۔“ اس نے بازو
 بڑھا کر اسے قریب کرنا چاہا۔

”میں ٹھیک ہوں۔“ اس کا لہجہ سرد تھا، مگر آنکھیں
 نم ہو رہی تھیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گیا۔

”میں تمہارا باپ ہوں شانی! تمہارا دل نہیں چاہتا
 کہ تم میرے پاس آؤ۔“ پہلی بار لہجہ شکستہ تھا۔

”اس کی عادت نہیں ڈالی آپ نے۔“ وہ کتاب بند
 کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔

”تم اپنی ماں کی زبان بول رہے ہو۔“ اس نے بلند
 آواز میں کہا تھا۔



اسے فوری طور پر بلوایا گیا تھا، جاتے ہوئے وہ بار بار
 اسے زینی کے بارے میں تنبیہ کر رہا تھا، پہلے وہ
 جانے سے پہلے اسے اپنا خیال رکھنے کے لیے کہتا تھا۔

اور نہ جانے کے بہانے ڈھونڈتا تھا اب تو اسے پکا یقین
 ہو گیا کہ یہ سچی اس کی بیٹی ہے۔ وہ حیران نہ تھی خائف

تھی خفا اور ناراض۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔
 ”مجھے پتا تھا، میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں
 گا۔ مجھے پتا تھا، تمہیں ایک دن مجھ سے ڈھیر ساری
 شکایتیں ہوں گی۔“ رات اس نے اس کی بات کے
 جواب میں کہا تھا جب اس نے کہا کہ
 ”مجھے پتا ہے، تم اپنی پہلی زندگی سے نہیں نکل

آج صبح سارا اور سفیر آئے تھے۔ انہیں مل کر پھر
 سے کچھ کرنا تھا۔ زینی کو تلاش کرنے کے لیے۔

سفیر کے چہرے پر تھکن تھی، مگر وہ ہشاش بشاش
 لہجہ لیے اس کے پاس کھڑا تھا سارا نے بچوں کو ساتھ لپٹا
 کر خوب پیار کیا، اب وہ ان کو کہانی سنانے لگی تھی۔

ہاجرہ ناشتے کی ٹرے لے کر ان کے پاس آئی۔
 انہوں نے سوچا پھر سے تھانے چلتے ہیں، اخبار میں
 اشتہار دیتے ہیں۔ شاید کوئی امید پوری اترے۔ وہ

تینوں بچوں کو اسکول چھوڑ کر خود نکل گئے اللہ کا نام لے
 کر۔ وہ نام جو کام بناتا ہے۔



وہ رات کا پہلا پہر تھا جب سفیر اور سارا گھر کے لیے
 نکلے تھے اور وہ کھانے کے برتن سمیٹنے لگی تھی، جب
 دو بار دروازہ بجایا گیا۔

”میں دیکھ لوں گی!“ شانی کمرے سے باہر نکلا تھا۔
 ”دیکھ لو۔ مگر دھیان سے۔ پہلے پوچھ لینا کہ کون
 ہے۔“ وہ برتن دھونے لگی تھی۔ شانی کے پیچھے پیچھے
 قیصر آ رہا تھا، شانی عدم دلچسپی دکھاتا ہوا کمرے کی طرف
 چلا گیا تھا۔

”کیسی ہو؟“ وہ اس کی طرف آیا۔ وہ خاموشی سے
 اپنا کام کرتی رہی۔

”میں تم سے بات کر رہا ہوں۔“
 ”اپنے مطلب کی بات کرو۔“ وہ اس کی طرف
 نہیں دیکھ رہی تھی۔

”بچوں سے ملنے آیا ہوں میں۔ کہاں ہیں میری
 بیٹیاں۔ بیٹے کو تو تم نے میرے خلاف کر دیا ہے۔“
 ”بہت جلدی نہیں یاد آگئی تمہیں اپنی بیٹیوں
 کی؟“ لہجہ چبھتا ہوا تھا۔

”مجھے تمہاری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
 فاطمہ، زینی کہاں ہونگے۔“ اس نے کمرے کا دروازہ
 کھولا اور اندر جھانکا۔ شانی کو کتابوں میں محو پایا۔ فاطمہ
 بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھی تھی مگر اس تک آئی
 نہیں۔

اگر دل سے قبول کر سکو میری بیٹی کو تو اچھی بات ہے مگر مجھے تم سے کچھ اچھی امید نہیں بہر حال۔۔۔ تم سوچ لو میں تمہیں سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں۔ ابھی ہماری کوئی اولاد نہیں۔۔۔ ابھی تمہارے لیے پلٹنا شاید آسان ہو۔۔۔

وہ کتنی آسانی سے یہ سب کہہ رہا تھا جو سوچنے کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کا اشتعال بڑھ رہا تھا غصہ بڑھ رہا تھا۔

”تم چاہو تو۔۔۔“

چٹاخ۔۔۔ ”اتنی بڑی جرأت بائیس سالہ لڑکی نے ایک زوردار تھپڑ مارا ایک پینتیس سالہ آوی کو۔

بیوی نے شوہر کا آخری حربہ خود آزمایا جب زبان کسی چیز کو نہیں بیان کر پاتی، سمجھ پاتی، غصہ اور اشتعال بڑھ جاتا ہے تو ہاتھ اٹھتا ہے۔ وہ بلاشبہ غصے کی اتنی ہی تیز تھی مگر۔

وہ حیرانی سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ یہی اٹھا تھا اور اس کے محبوب کا گال وہ کھا گیا۔ اتنی طاقت۔ ابوذر کے لفظوں نے اسے جتنا دکھ دیا۔ وہ سارا سمیٹ کر اس نے ایک تھپڑ میں اتار دیا۔

وہ چاہتا تو اسے پینتا شروع کر دیتا مگر وہ کم طرف مرد نہ تھا، ورنہ نہ تھا۔ ایک مخصوص سی لڑکی کی جرات پر حیران ضرور تھا مگر اس نے بدلہ نہیں لیا۔ بیگ کندھے پر ڈالا اور بے تاثر چہرے کے ساتھ باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا۔

عائشہ نے اپنا سر پینٹا شروع کر دیا۔ زینبی ایک کونے میں کھڑی سہمی ہوئی تھی۔ اس نے ایک عجیب تماشا دیکھا جو اس نے اپنے گھر میں کسی اور صورت دیکھا تھا۔ اس کے دل میں بڑوں کا کردار کچھ مشکوک ہو گیا۔ وہ جو کئی دنوں سے نہیں روئی۔ رونا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ ای کو پکارتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر چیخ چیخ کر رونے لگی اور عائشہ نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا اور پھر تھپڑ مار دیا۔ زینبی کے رونے میں کمی کے بجائے تیزی آئی تھی۔

باؤگے۔ مجھے پتا تھا۔ تم مجھے دل سے نہیں چاہو گے۔ تمہیں میرا، میری محبت کا، میری سچائی کا کوئی احساس نہیں ہو گا، میں بے وقوف تھی، احمق تھی۔“

”مجھے پتا تھا، تم بے وقوفیاں کرو گی۔ تم اب بھی احمق ہو۔ نا سمجھ ہو۔ اکیس بائیس سال اتنی بھی کم عمر نہیں ہوتی مگر تم سولہ سال کی بچیوں کی طرح جلی ہو کر تھی ہو۔ بہتر تھا۔۔۔ تم اسی لڑکے سے شادی کر لیتیں۔“ وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔

”تم نے کیا کہا ابوذر؟“

”میں نے کہا کہ تمہیں اسی لڑکے سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔۔۔ وہ شاید تمہیں خوش رکھ پاتا۔ بہت پیسہ بہت پیار۔“

”ایک دفعہ پھر یہ سب کہنا۔“

”بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کتنا ہوں۔ اب بھی سوچ لو۔ تمہاری زندگی ہے۔ تم چاہو تو لوٹ سکتی ہو۔ وہاں سب کو انتظار ہے کہ تم لوٹ جاؤ گی۔ تمہارا باپ مجھے تمہیں یہاں رکھنے اور بہت سی ضروریات نہ پوری کرنے کی وجہ سے برا بھلا کہنے لگا ہے۔“

تمہاری سوتیلی ماں کو تو کوئی خاص دلچسپی نہیں، مگر وہ بھی میرا مذاق اڑاتی ہے۔“

وہ گھڑی پس کر اس کی طرف مڑا اور کچھ ضروری چیزیں ڈھونڈنے لگا۔

”زندگی بہت لمبی ہے۔ میرے ساتھ نہ رہ پاؤ تو۔۔۔ ابھی فیصلہ کر لو۔“

”یہ سب تم اپنی بیٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہو، ہے نا۔“

عورت اپنی محبت میں کتنی کمزور اور بے وقوف بن جاتی ہے یہ وہ بھی نہیں سمجھ پاتی بعض دفعہ۔

”مجھے تم نے۔ اس بچی نے اور وقت نے احساس دلا دیا ہے کہ مجھے اپنی بچی کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ میں چاہوں تو اسے ان محرومیوں سے بچا سکتا ہوں جو میری زندگی میں آئیں جو میں نے تمہارے اندر دیکھیں۔ میں نہیں چاہتا میری بیٹی اور میری زندگی گزارے۔ تم

ہیں۔ امیں م سے سرت ہی لری چاہیے۔ سی دیر
میں اپنی اہلیت اور اصلیت کھلی ہے تم پر مگر کھل
بہر حال گئی۔

اس نے ایک عرصہ اس شخص سے دبتے
جھجکتے اس کا لحاظ کرتے ہوئے گزارا تھا۔ اب اس
کے اندر رنی برابر اس کے لیے — نہ نرمی تھی نہ
مہنجائش۔ اس کا بس چلنا تو وہ اسے دھکے دے کر نکال
دیتی، مگر وہ بچوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی
اپنی پریشانیوں کو برعنوانا چاہتی تھی۔

”تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ بہت برا کیا
ہے بدلہ لے رہی ہو مجھ سے۔“ وہ زور سے چیخا تھا۔
شانی کمرے سے باہر آیا۔ ”آپ میری ماں سے
لڑ رہے ہیں۔“ وہ ان دونوں کے بیچ کے فاصلے میں آکر
کھڑا ہو گیا تھا۔

”میں تمہارا باپ ہوں شانی!“ اس کا لہجہ کچھ دھیمہ
پڑا۔

”مجھے پتا ہے۔“ شانی کا لہجہ دھیمہ مگر کاٹ دار تھا۔
”تم طنز کر رہے ہو۔ اپنے باپ پر۔ کس قدر بگاڑ دیا
ہے تم لوگوں کو تمہاری ماں نے۔“

”مٹی۔ اندر چلیں۔“ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا۔
”مجھ سے بات کرو شانی! بتاؤ کیا کہتی رہتی ہے یہ
عورت تم لوگوں کو۔ بتاؤ کتنا اور غلاتی ہے اپنے باپ کے
خلاف۔ بولو۔ بولو۔“ اس نے شانی کا بازو پکڑ کر پاگلوں
کی طرح کہا تھا۔

”چھوڑو میرے بیٹے کو۔ کوئی حق نہیں ہے تمہیں
اسے ہراساں کرنے کا۔“ اس نے بازو چھڑایا۔

شانی اس کے پیچھے جا چھپا تھا۔
”مٹی! یہ مجھے ماریں گے۔“ شانی کو اس کی وحشت
سے ڈر لگ رہا تھا۔

”میرے سامنے“ میرے ہوتے ہوئے کوئی یہ
جرات نہیں کر سکتا۔“

”اچھا ہوا“ میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ اچھا ہوا
میں نے تمہیں اس قابل نہیں سمجھا۔ تم تھیں ہی اس
قابل۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے۔“



میرا نے پہلی بار اسے فون کیا تھا۔ اس کی شادی
ہو رہی تھی یہ بتانے کے لیے نہیں بلکہ یہ کہنے کے لیے
کہ اپنی بیٹی کو کچھ دنوں میں آکر لے جانا۔

میرا کا لہجہ نرم تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی
سے باپ نہیں چھیننا چاہتی۔ ابو ذر نے بڑی خاموشی
سے اس کی بات سنی اور جب اس کی بات ختم ہوئی تو
بغیر الوداعیہ کلمات کے اس نے فون بند کر دیا۔

اس کے چہرے پر ایک تکلیف وہ مسکراہٹ پھیل
گئی، اسے پتا تھا میرا کے شوہر نے بیٹی کو ساتھ رکھنے
سے انکار کر دیا ہے حالانکہ میرا اتنی آسانی سے کہاں
بیٹی اس کے حوالے کرنے والی تھی۔ اب وہ اپنی زندگی
دوبارہ اپنے طریقے سے شروع کرنے جا رہی تھی۔

اس نے سوچا، وہ فیلڈ سے فارغ ہو کر ایک دو دن
میں اپنی بیٹی سے ملنے جائے گا۔ اس کے لیے ڈھیر
سارے کھلونے لے جائے گا۔ اس کے لیے طرح
طرح کی چیزیں لے جائے گا کھانے کی۔ اس کے لیے
اچھے والے کپڑے خریدے گا۔ یہ سوچ کر ہی اس کی
مسکراہٹ سے تکلیف غائب ہونے لگی تھی۔

اس نے سوچتے ہوئے اخبار اٹھایا سرسری نظر
گزرتے ہوئے پٹی اور پلٹ کر شہر گئی۔

یہ تصویر زین کی تھی۔ اطلاع گمشدگی کے ساتھ
نیچے کانٹیکٹ نمبر بھی دیے گئے تھے۔ وہ فوراً متوجہ
ہوا تھا۔



”کتنا زہر بھردیا ہے تم نے میرے بچوں کے دل میں
میرے خلاف۔“ وہ صبح چائے کی پیالی ہاتھ میں لیے زہر
بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔

”افسوس کہ مجھے ایسا کچھ کرنے میں کوئی دلچسپی نہ
تھی نہ ہی ضرورت پڑی تم نے خود ہی اپنے عمل اپنے
روئے اپنی ظالمانہ فطرت سے ان کے اندر یہ زہر کا بیج
بودیا۔ جسے کئی سال ہو چکے ہیں۔ اور اب تمہیں
احساس ہو رہا ہے کہ تمہارے بچے تم سے نفرت کرتے

”ضرور چلیں گے۔ جلدی چلو۔ راستے میں ناشتا لے لیں گے۔ مجھے پتا ہے، تم نے ناشتا نہیں کیا ہوگا۔“

وہ شانی کو ساتھ لگائے اس کے بال بگاڑتے ہوئے پیار سے کہہ رہا تھا۔ شانی اس سے چمٹا ہوا اس کا بازو تھامے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کبھی اس نے بیٹے کو یوں لپٹا کر نہ پیار کیا تھا نہ ہی وہ اس طرح لاڈ کرتا تھا۔ وہ لوگ عجلت میں باہر نکلے سارا نے اسے بھی کہہ دیا تھا ساتھ چلنے کو مگر وہ ان سب کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر مزید جلنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے گھر بیٹھ کر انتظار کرنے کا کہا۔

شانی، سفیر کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور سارا ہاجرہ اور فاطمہ پیچھے بیٹھے تھے۔ وہ گھر کے بیرونی دروازے کے ساتھ کھڑا دل جلا رہا تھا۔ گاڑی آگے بڑھنے کے بعد اس نے بڑے غصے سے دروازہ بند کیا اور دروازے کی پشت پر مکا جڑ دیا جس سے دروازے کو تو کوئی فرق نہیں پڑا مگر اس کا ہاتھ لوہے کے دروازے سے ٹکرا کر جیسے سن ہو گیا تھا جس پر اس کے چہرے کا تاثر دیکھنے لائق تھا۔



ابوذر خلاف توقع تیزی سے آ رہا تھا۔ کل ہی تو وہ گیا تھا۔ وہ جی بھر کر حیران ہو رہی تھی اور کچھ ڈری ہوئی۔ ”زینی۔ زینی کہاں ہونے لگی؟“ وہ ایک سے دوسرے کمرے میں جھانک کر آوازیں دینے لگا پھر لاؤنج، کچن ہر جگہ داش روم میں بھی دیکھ آیا۔ کمرے کے دروازے، کونے درزیں جیسے کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو۔ ساتھ ہی وہ آوازیں بھی دے لے جا رہا تھا۔ ”کہاں ہے زینی۔“ وہ بالکون کی طرح ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تو اس کے پیچھے آیا۔ ”مجھے کیا پتا۔“ مری سی آواز نکلی۔ ”کیا مطلب۔ تمہیں کیا پتا۔ اس کے گھر والے اسے لینے آ رہے ہیں۔ پچھنے والے ہوں گے۔“ وہ بوکھلا گیا اس کے انداز پر۔

”تم اگر ہماری زندگیوں کو پھر سے تباہ کرنے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ بجائے غم بانٹنے کے تمہیں ایسی باتیں سوجھ رہی ہیں۔“

وہ خاموشی سے کمرے کی طرف گیا۔ ”بہت کوشش کی تھی کہ ان کے دل پر تمہارے خلاف کوئی اثر نہ پڑے۔ بہت کوشش کی کہ یہ تمہارے لیے احساسِ سوچیں، مگر تم نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ یہ تم پر ڈپینڈ نہیں ہیں، اس لیے ان کو ہراساں کرنے کا سوچنا بھی نا۔“ وہ کچن سے باہر نکل گئی دروازے پر بتل ہو رہی تھی۔ وہ ہونٹ چبانے لگا۔ لفظوں کے کھلاڑی کے پاس جو ابلی لفظ کمزور پڑ گئے تھے دروازہ کھلنے پر سارا اور سفیر اندر آئے تھے۔ سفیر نے اس کو سلام کر کے حال احوال پوچھا تھا وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ”تم ٹھیک کہہ رہے ہو نا سفیر!“ اس کے چہرے پر یقین اور بے یقینی کی سی کیفیت تھی۔ وہ سفیر سے بات کر رہی تھی۔

”ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں یقین کرو تم مجھے کچھ دیر پہلے ہی فون آیا ہے وہ آری اپنا نام ابوذر بتاتا ہے اور اس نے اخبار دیکھا ہے۔ وہ بتا رہا تھا۔ اسی علاقے کا جہاں سے یہ ٹیمپ لگائے گئے تھے۔ اسے وہیں سے زینی ملی تھی۔“

”اف خدایا!“ ہاجرہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ ”سفیر! میں نقل پڑھ لوں شکرانے کے۔“ اس کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ ”پڑھ لینا میڈم! مگر ابھی چلیں خاصا دور ہے وہ علاقہ۔“

”ہاں چلو۔ جلدی چلو۔ میں تسبیح تو لے لوں سفیر۔“ وہ کمرے کی طرف بڑھی۔ سارا کمرے میں گھسے بچوں کو باہر لائی تھی۔ بچے اس سے خوشی سے چمٹے ہوئے تھے۔ اس سب میں وہ کتنا اجنبی لگ رہا تھا اس نے پہلی بار یہ سب محسوس کیا تھا۔ ”ہم بھی چلیں گے۔“ فاطمہ اور شانی کے چہرے کھل اٹھے تھے۔

کر آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھایا۔

”وعلیکم السلام۔ میں ابوذر۔“ اس نے ہاتھ فوراً تھام کر چھوڑ دیا۔

”آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ہمیں اطلاع دی۔ ہم آپ کا احسان کیسے اتاریں بتائیں۔“ سفیر متاثر کن انداز میں کہنے لگا۔

”زینبی کہاں ہے۔“ ہاجرہ آگے بڑھی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔

”وہ وہ یہیں تھی۔ یہ اس کی چیزیں۔ کپڑے۔“ اس نے اس کے اسکارف کی طرف اشارہ کیا جو لاونچ میں سامنے ہی کھوٹی پر لٹکا تھا۔

”بروہ ہے کہاں۔ اسے پتا ہے ہم آگئے ہیں۔“ سارا آگے بڑھی تھی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ جو خالی نظر آ رہا تھا۔ دوسرے میں عائشہ بت بنی کھڑی تھی۔

”ادھر آؤ۔“ ابوذر نے اسے آواز دی کڑک دار لہجے میں۔

وہ کانپتی ہوئی باہر آئی۔

”وہ بھی یہاں۔ رات بھی۔ مگر وہ اصل میں وہ شور کرتی تھی روتی تھی ضد بھی کرتی تھی۔“

”وہ ہے کہاں؟“ ہاجرہ جیسے رو دینے کو تھی۔

”وہ غصے میں پتا نہیں کہاں۔ کہیں نیچے شاید یہیں کہیں۔ پتا نہیں کہاں چلی گئی۔“ کہتے ہوئے آواز کانپی تھی۔

”کیا مذاق ہے یہ۔“ سارا کالہجہ تلخ تھا۔

”دیکھیے ابوذر صاحب! ہمیں صرف اپنی بیٹی چاہیے۔“ سفیر کالہجہ تلخ ہو گیا۔

”دیکھیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں ناواقف ہوں۔ ورنہ میں آپ کو اطلاع کیوں دیتا۔ دیکھیں وہ یہیں کہیں ہوگی۔ ہم ڈھونڈتے ہیں۔ مل جائے

”وہ واقعی تمہاری بیٹی نہیں تھی؟“

”عائشہ! اس کا جی چاہا اسے بیٹنا شروع کر دے۔“ کہاں ہے وہ۔ بتاؤ۔ کہاں ہے۔ کیا کیا ہے اس کے ساتھ۔“ وہ اس کے آگے بڑھتے ہی دیوار سے جا لگی تھی۔

”مم۔ میں کیوں ماروں گی اسے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ قسم کھاتی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا۔ بس تھپڑ مارا تھا۔“

”کیا۔ تم نے اسے مارا۔“ یہ بھول گیا کہ تھپڑ تو وہ اس کو بھی مار بیٹھی تھی۔ چھوٹی سی بچی کو مارنا کیا دشوار تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رک گیا۔ عائشہ نے آنکھیں میچ لیں پھر اس کا رکتا ہاتھ دیکھ کر کھولیں۔

”سچ سچ بتاؤ۔ اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ سچ بتاؤ۔ تھپڑ نہیں ماروں گا۔ گلا دباؤں گا۔ بتاؤ۔“ وہ اس کے گرد دیوار پر ہاتھ جمائے کھڑا دھاڑا تھا۔

”بس مجھے واقعی نہیں پتا۔ وہ پتا نہیں کہاں چلی گئی۔“ اس گھگھی بندھ گئی۔

”دیکھو اگر اسے کچھ ہوا۔ وہ نہیں ملی۔ کچھ بھی۔ کوئی نقصان بھی تو میں تمہیں اس کے ماں باپ کے حوالے کروں گا۔ سمجھ رہی ہونا میری بات۔ پھر جیل بھجوا دوں گا۔“

اس کی آنکھیں ابل رہی تھیں۔ عائشہ نے پھر سے آنکھیں میچ لیں۔

”وہ وہ نیچے گئی تھی۔ اسے ڈھونڈ لیتے ہیں۔“

وہ فوراً نیچے کی طرف آیا جب تک سفید گرو لاروڈ پر کھڑی تھی اور اس میں سے کچھ لوگ اتر کر ادھر ہی آ رہے تھے۔ وہ وہیں سیڑھیوں کے بیچ رکا رہا گیا۔ پھر اوپر آیا۔

”آگئے ہیں وہ لوگ۔ آ رہے ہیں ادھر۔ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بات کرنا خود ہی۔ کتنا ظلم کیا ہے تم نے ایک معصوم بچی پر اور کہاں چھوڑ آئی ہو۔ ایف آئی آر کئے گی تم پر۔“ وہ مزید کہتا مگر قدموں کی آواز سیڑھیوں سے اوپر آرہی تھی۔

”السلام علیکم۔ مسٹر۔!“ سفیر اسے سامنے دیکھ

”دیکھئے، آپ کھانا وغیرہ کھا کر جائیے سفیر صاحب!“
ابوذر اس کے ساتھ اوپر آیا۔
”نہیں بہت شکریہ ابوذر! ہمیں بچی کو ڈاکٹر کے پاس
لے جانا ہے۔ وہ بخار میں تپ رہی ہے۔ آپ کا شکریہ۔“

چلو سارا!“
”زینی مل گئی؟“ وہ اٹھی اسے دیکھ کر۔
”ہاں مل گئی ہے گاڑی میں ہے، چلو بیٹے دھیان
سے۔“ وہ تینوں آگے بڑھے۔
”سفیر! وہ ٹھیک ہے نا۔“ سارا کو بے چینی تھی۔
”تم نیچے جاؤ، ہاجرہ اکیلی ہے۔ بخار ہے اسے۔“ وہ
بچوں کو لیے نیچے اترنے لگی۔
”میں آپ سے بات کروں گا ابوذر صاحب! آپ کو
کچھ پیسے وغیرہ پھر۔“


”کچھ نہیں سفیر صاحب! کیسی باتیں کرتے ہیں
آپ۔ میں خود ایک بیٹی کا باپ ہوں۔“ ابوذر نے اس
کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔
”اوکے بہت شکریہ۔ ملیں گے پھر۔ بات ہوگی۔“
وہ ہاتھ ملا کر اللہ حافظ کہہ کر نیچے چلا گیا۔ اس کے پیچھے
ہی گاڑی اشارت ہوئی تھی۔ ابوذر ریٹنگ برجھا تھا۔
”سچ گتیں تم۔“ شکر کرو۔ ورنہ۔ یقین آ گیا تمہیں
کہ وہ میری بیٹی نہیں تھی۔ میری بیٹی سمجھ کر پتا نہیں
تم نے اس پر کتنے ظلم ڈھائے ہوں گے۔ شرم آتی
چاہیے۔ ایک بچی پر۔ کسے احساس ہو گا۔ اپنی اولاد۔“
وہ کہتے کہتے رگ گیا۔ اور گمرے کی طرف چلا گیا۔
عائشہ اسے دیکھتی رہی، دل چاہ رہا تھا۔ ہمیں سے
کوو کر جان دوے دے۔ شرمندگی کا کیسا عالم تھا۔



وہ لوگ رات گئے گھر لوٹے تھے۔ وہ گھر سے باہر ہی
نہیں گیا، البتہ وہ چہ گھنٹے سوتا رہا اور کچھ دیر پہلے ہی اٹھا
تھا اور ارادہ کر رہا تھا کہ اب باہر جائے، مگر تب تک وہ
لوگ آچکے تھے، یہ کوئی رات نوبے تک کا وقت تھا۔
”زینی کیسی ہو۔“ وہ آگے بڑھا اسے بانہوں میں

گی۔ ایک رات میں وہ کہاں جا سکتی ہے بھلا۔“
”ہاجرہ! بچوں کو لے کر رکھو یہیں ہم آتے ہیں۔“
سفیر نے ابوذر کو ساتھ چلنے کا کہتے ہوئے پھر اس سے
کہا۔

”میں ساتھ چلوں گی۔ میری زینی۔“ اس کی آواز
بھرائی۔
”نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تم رکو۔ ہم
آتے ہیں۔“
سارا بچوں کو لے کر اندر آگئی۔ اور بیگ سے پانی کی
بوتل نکال کر انہیں پانی پلایا۔
”سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مل جائے گی۔
اوکے۔“ وہ بچوں کو سمجھا رہی تھی۔
بچوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف
دیکھا۔



نہر کے کنارے ایک سوٹر ملا تھا۔ ابوذر چونکا تھا۔
”یہ تو اس نے پن رکھا تھا۔“
”ابوذر صاحب! ہم پولیس کو کل کرتے
ہیں۔“ سفیر نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگا۔ تب
ہی ہاجرہ چیخی۔
”وہ۔ وہ کیا ہے۔“ وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھی،
جہاں سے پتھر کوئی چھوٹا سا اسکارف لہرا رہا تھا۔ وہ
تینوں اس سمت بڑھے۔ بڑے پتھر کے نیچے وہ گری
تھی۔ کانپ رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ بہ رہا
تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھی۔

سفیر نے اسے فوراً اٹھالیا۔ ہاجرہ چٹ گئی۔ زینی
بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول
کر ماں کو بے یقینی سے دیکھا اور ہاجرہ نے اس کا سر چوم
لیا۔ گلے سے لگا لیا۔

”بچی کو لے چلیں۔ بہت ٹھنڈی ہوا ہے۔“ ابوذر
کا جیسے اکھڑا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔
سفیر نے اسے گاڑی میں لٹایا اور سارا اور بچوں کو
بلانے گیا۔

”تم بیوی ہو میری۔“ اس کا لہجہ جتانے والا تھا۔
 ”جانتی ہوں۔“ اس کے ہونٹوں پر عجیب
 مسکراہٹ تھی۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اس کے
 جاتے ہی وہ بند دروازے کے سامنے کھڑا بند
 دروازے کا مفہوم سوچ رہا تھا۔
 اسے کون بتاتا کہ دوسروں کی راہیں بند کرنے اور
 ان پر زندگی تنگ کرنے والوں کو دروازے ہمیشہ بند ملتے
 ہیں پھر یہ ان پر ہے کہ وہ لوٹ جائیں یا بند دروازے
 پینتے رہیں۔



سیرا کی شادی ہو گئی تھی، اس کا شوہر اسے اپنے
 ساتھ مسقط لے گیا تھا جہاں ان کی رہائش اور کاروبار
 تھا۔

ابوذر بہت سارے کھلونے اور ڈھیر ساری چیزیں
 لے کر اپنی بیٹی کو لینے گیا تھا اور اسے اپنے چھولے سے
 لکڑی کے محل میں لے آیا تھا۔

اسے یقین تھا کہ آہستہ آہستہ عائشہ اسے قبول
 کر لے گی۔ اس کی بیٹی بہت پیاری تھی۔ وہ شرارتیں
 نہیں کرتی تھی نہ شور کرتی نہ تنگ کرتی۔ وہ بات بھی
 بہت کم کرتی تھی شاید اس کی تربیت میں شامل احساس
 کمتری اسے پوری طرح اٹھنے نہیں دے رہی تھی۔
 ابوذر اس کے ساتھ بہت وقت گزارتا تھا، وہ عائشہ
 کا بھی خیال رکھنے لگا تھا۔ عائشہ اس سے محبت کرتی
 تھی۔ اسی لیے اس نے اب بے وقوفیاں کرنی کم کر دی
 تھیں۔

اس نے یہ حقیقت تسلیم کر لی تھی کہ ابوذر کی بیٹی کو
 اب اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ چاہے بھی تو کچھ
 نہیں کر سکتی۔ عائشہ کا رویہ بچی سے بہت اچھا نہ تھا تو
 برا بھی نہ تھا۔ ابوذر اتنے ہی مطمئن تھا۔ کیونکہ اسے
 اندازہ ہو گیا تھا کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ دکھوں
 سے مشکلوں سے پریشانیوں سے گزرنا ہے۔ اس نے
 بہت ساری باتوں سے سمجھوتہ کر لیا تھا۔

اسے گزرتے وقت نے بتایا کہ کوئی پریشان حال ایسا

اٹھانا چاہا۔
 ”آپ ہمیں چھوڑ کر نئی آنٹی کے ساتھ چلے گئے
 تھے۔“ زینبی کے اس سے کئی شکوے تھے۔ پہلی بار وہ
 چپ چاپ سنتا رہا۔

”آپ پھر ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟“ وہ اس
 کے ساتھ بیٹھی تھی۔

سفیر اور سارا ہاجرہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب
 نے مل کر کھانا کھایا۔ زینبی وقفے وقفے سے سفیر سے
 چاکلیٹ یا کسی چیز کی فرمائش کر رہی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ
 ان کے لیے چیزیں لایا کرتا تھا۔

”بخار اتر جائے تو لاؤں گا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ
 پہلے۔“

”زینبی میں تمہارے لیے چاکلیٹ لاؤں؟“ قیصر
 نے بڑی حسرت سے کہا تھا۔

”آپ تو نہیں لاتے۔ انکل لاتے ہیں۔“ اس کی
 بات پر قیصر کا چہرہ اتر سا گیا۔

”آپ لاؤں گا۔“ وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا۔
 کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ رات

ساڑھے گیارہ بارہ تک وہ لوگ چلے گئے۔ بچے سو گئے
 تھے دن بھر کے تھکے ہوئے تھے۔

قیصر کا فون بجنے لگا۔ وہ باہر آیا بات کرنے کے لیے
 اس کی بیوی کا فون تھا۔

ہاجرہ کچھ فاصلے پر کھڑی تھی، اسے دیکھ کر وہ زیادہ
 بات نہ کر سکا۔ ہاں میں جواب دے کر فون بند
 کر دیا۔

ہاجرہ خاموشی سے بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔
 قیصر کا بستر دوسرے کمرے میں لگایا گیا تھا۔ وہ بچوں کے
 کمرے میں آیا، جہاں ہاجرہ اپنا بستر بچھا رہی تھی بچوں
 کے بستر کے ساتھ۔

”میں اپنے بچوں کے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔“ وہ
 اس سے بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے باہر
 آیا۔ ”تم بھی سو سکتی ہو یہاں پر۔“

”میرا گھر ہے، مجھے بتا ہے مجھے کہاں سونا ہے۔“ وہ
 دوسرے کمرے کی طرف گئی۔

نہیں ہے جس کا کوئی پُرساں حال نہ ہو۔ ہر بے چارے کا یہاں کوئی نہ کوئی چارہ ہوتا ہے۔



”تمہاری بیوی میں اگر کوئی عیب ہے تو تمہیں یہ سوچ کر اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سوچو کہ تم میں بھی کچھ عیب ہوں گے یا پھر تم خود کو بے عیب سمجھتے ہو۔ کیونکہ تم نے کبھی آئینے میں اپنا اصل چہرہ نہیں دیکھا۔ یا پھر آئینے نے تم سے خاص رعایت رکھی۔“

ہاجرہ بہت دنوں بعد اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی تھی۔

چار دن یہاں ٹک کر اس نے ہاجرہ کو دیکھا تو اسے زندگی کے نقشہ ہونے کا احساس ہوا تھا وہ احساس بعض اوقات چھوڑتا ہے۔ ہلاکتا ہے۔

وہ اسے کولہو کے نیل کی طرح کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر وہ اپنے حساس بچوں کو دیکھا تو نہال ہو جاتا مگر یہ سب محنت اس کی بیوی کی تھی اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہ تھا اس لیے وہ خوش ہو سکتا تھا مگر فخر نہیں کر سکتا تھا۔

وہ خود سے شرمندہ رہنے لگا تھا۔ اس نے وہاں جانا چھوڑ دیا جہاں اس کی محبوبہ رہتی تھی۔ ایک دن ہاجرہ نے اس کا فون ریسو کیا اور بات سنی۔ وہ رو رہی تھی۔

”تم ایک سیلفش مرد کے لیے رو رہی ہو۔ ایک ایسے مرد کے لیے جو تمہاری خاطر اپنے بچوں کو چھوڑ سکتا ہے تو تمہیں چھوڑنا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ تمہیں رونا نہیں چاہیے۔“

پھر اس نے ہاجرہ کو بتایا کہ اس میں ایک کمی ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ پہلے شوہر نے بھی اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے سوچا اب قیصر کے ساتھ وہ نئی زندگی کا آغاز کرے گی۔ ہاجرہ نے اسے علاج کرانے کا مشورہ دیا۔ اسے جا ب کرنے کا کہا اور اس کی ہمت بندھائی۔ اس کے بعد وہ پہلی بار قیصر سے خود مخاطب ہوئی اتنے روز میں۔

”میں اب اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔“

تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔“

”میں اکیلے رہنے کی عادی ہو گئی ہوں قیصر! بچوں کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ایک گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں مگر بحیثیت اپنے بچوں کی ماں اس سے زیادہ مجھ سے امید مت رکھنا۔“

”ہم نئے سرے سے زندگی نہیں شروع کر سکتے ہاجرہ! اس بار وہ ہنس سکی۔ مسکرا سکی۔“

”میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے اب جیسے مرے ہوئے لوگ زندہ نہیں ہو سکتے ویسے مرے ہوئے ساتھ کا بھی زندہ ہونا مشکل ہے۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی۔ تمہارے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے۔“ وہ مسکرا کر اٹھ گئی۔

بچے خوش تھے کہ ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ زندگی شاید اب اتنی مشکل نہیں۔

قیصر نے اپنی زمین بیچ کر ایک پلاٹ خریدا تھا۔ وہ اب اس پر آہستہ آہستہ تعمیر کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اب کمانا چاہتا تھا۔ اسے محنت کرنا تھی۔ ساری زندگی زمینوں سے آتا منافع کھاتا رہا اپنی ضروریات پوری کرتا رہا مگر اب محنت سے کمانا چاہتا تھا۔

قیصر اچھا شوہر نہ بن سکا مگر وہ اب کوشش کر رہا تھا کہ ایک اچھا باپ بن جائے۔ وہ محنت کر رہا تھا جو کہ مشکل ہوتی ہے وہ اس بند دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا، مگر اس کی چابی وہ کھوچکا تھا۔

جیسے استغفار کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں اسی طرح مسلسل آواز دینے سے کبھی کوئی لوٹ بھی آتا ہے اور دروازہ کھل بھی جاتا ہے۔

